



5278CH02

خودی اور شخصیت

2

اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- خودی کے تصور کو بیان کر سکیں گے اور اپنے روئے کو خود ہی ضابطے میں رکھنے کے طریقے سمجھ لیں،
- شخصیت کے تصور کو سمجھ لیں،
- شخصیت کے تجزیے کے مختلف طریقوں کو سمجھ لیں،
- ایک اچھی شخصیت کی تغیر کے لیے اپنا نظریہ بنالیں،
- شخصیت کو سمجھنے کے لیے اپنائے گئے مختلف طریقوں میں فرق سمجھ لیں۔

تعارف

خودی اور شخصیت

خودی کا تصور

خودی کے دو فنی اور کرداری پہلو

خود پسندی، خود فراموشی اور خود ضابطی

ثقافت اور خودی

شخصیت کا تصور

شخصیت سے متعلق اصطلاحات (باکس 2.1)

شخصیت کے مطالعے کے لیے اہم طرز فکر

نوعی طرز فکر

خاصہ یا امتیازی وصف کا طرز فکر

شخصیت کا پانچ نکالی نمونہ (باکس 2.2)

نفسی حرکیات کا نظریہ

کردار کا نظریہ

تہذیبی طرز فکر

مشمولات

کلیدی الفاظ

خلاصہ

اعادہ کے سوالات

پروجیکٹ کی تجویز

ویب لنس

تعلیماتی اشارات

اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خود بخود اپنا اور دوسروں کے رویہ کا مواخذہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے اس پر بھی غور کیا ہو گا کہ کس طرح ایک ہی طرح کے حالات میں آپ کا رویہ دوسروں کے رویہ سے مختلف ہوتا ہے؟ اکثر آپ کے ذہن میں اپنے رشتون کے بارے میں بھی سوالات اٹھتے ہوں گے۔ ان سب ہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ماہرین علم نفسیات نے ”خودی“، معنی خود اپنی ذات کا تصور یا احساس کا استعمال کیا۔۔۔ اسی طرح جب ہم اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے واقعات کے مختلف لوگ مختلف معنی کیسے نکال لیتے ہیں اور کیوں وہ ایک جیسے حالات میں مختلف طرح سے محسوس کرتے ہیں اور ان سوالات کے حل تلاش کرتے ہوئے شخصیت کا تصور نمایاں ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی تصور، خودی (ذات) اور شخصیت آپس میں گھرے طور پر مربوط ہیں۔ ذات دراصل شخصیت کا مرکز ہے۔

شخصیت اور خودی کا مطالعہ نہ صرف ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ ہمیں ہماری خصوصیات اور دوسروں سے یکسانیت سے بھی متعارف کرتا ہے۔ اس مطالعے سے ہم مختلف حالات میں اپنے اور دوسروں کے رویوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس مطالعے کے کئی مراحل اور ہیئت تیار کیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس خودی اور شخصیت کے مطالعے کے لیے بہت سے نظریات موجود ہیں۔ یہ باب آپ کو خودی و شخصیت کے بنیادی پہلوؤں سے روشناس کرائے گا۔ اس بارے میں کچھ نظریات بھی آپ پڑھیں گے اور شخصیاتی جائزے کے کچھ طریقے بھی سیکھیں گے۔

مختلف لوگوں کی شخصیت بھی مختلف ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو ہی ان کے برتوأر و راویہ میں جملتا ہے۔

خودی اور شخصیت

خودی اور شخصیت کے تصوارت ہمیں ان مخصوص مراکز کی طرف لے جاتے ہیں جہاں ہم اپنی موجودگی یا اپنے ہونے کی تعریف ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ان طریقوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جہاں ہمارے تجربات منظم ہو کر ہمارے برتوأر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عام مشاہدہ کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ مختلف لوگ اپنے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ رائے یا نظریہ ہی انسان کی ”خودی“ کے تصور کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں مختلف لوگ مختلف طرح سے برتوأر کرتے ہیں جب کہ ایک ہی انسان کا رویہ مختلف حالات میں تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ انسان کی طبیعت کا یہ مُتَحَکَّم رویہ ہی اس کی شخصیت کو جاگر کرتا ہے۔ اسی لیے

خودی کی سمجھی

مندرجہ میں جملوں کو "میں" سے شروع کرتے ہوئے مکمل کیجیے

وقت (آغاز).....

میں.....

وقت (اختمام).....

خودی یا ذات کا یہ ڈھانچہ یا اس کی ساخت سدھ رکھتی ہے ہمارے اپنے تجربات کی روشنی میں اور دوسروں کے تجربات سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ آپ اس بات کو کھلے طور پر محسوس کریں گے اگر آپ مندرجہ بالا سرگرمی 2.1 کو اپنے دوستوں کے ساتھ تبدیل کر کے دیکھیں گے۔

غور کیجیے کہ انھوں نے کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے ان خصوصیات کی فہرست تیار کی ہے جن کو وہ اپنی طبیعت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ خصوصیات جو وہ خود اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں، یہ ہمیں ان لوگوں کی ذاتی، سماجی اور تہذیبی شناخت کرتی ہیں۔ ذاتی شناخت ان خصوصیات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کو دوسروں سے الگ یا منفرد کرتی ہیں۔ جب ایک شخص اپنے آپ کو اپنے نام کے ذریعہ بیان کرتا ہے (جیسے میں کریم ہوں / میں رادھا ہوں) یا اپنی خصوصیات بیان کرتا ہے (جیسے میں ایماندار یا مختنی ہوں) یا پھر اپنی صلاحیت کو بیان کرتا ہے (جیسے میں ایک گلوکار ہوں) یا اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے (جیسے میں خدا اور قسمت پر یقین کرتا ہوں)، تو وہ اپنی ذاتی شخصیت کا انہصار کر رہا ہوتا ہے۔ سماجی شخصیت ان پہلوؤں کے متعلق ہوتی ہے جو اسے کسی سماجی یا تہذیبی گروہ سے منسلک کرتے ہیں یا پھر ان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی کہے کہ وہ ہندو، مسلمان، برہمن یا آدمی واسی یا پھر جنوبی ہند کا باشندہ ہے یا شامی ہندوستان کا رہنے والا ہے یا پھر اسی طرح کا کوئی اور جملہ، تو وہ اپنی سماجی شناخت کو بیان کرتا ہے۔ یہ تمام بیانات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لوگ اپنے ذہن میں خود اپنی نمائندگی کیسے کرتے ہیں۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ”خودی یا ذات“ کے ذی ہوش تجربات، خیالات، فکر اور احساس کا مرکب ہے جو وہ خود اپنے بارے میں کرتا ہے۔ یہ تجربات و خیالات کسی بھی فرد کی ذاتی اور سماجی سطح پر موجود گی پر مہر لگاتے ہیں۔

خودی بطور فاعل اور مفعول

اگر آپ سرگرمی 2.1 میں دیے گئے اپنے دوستوں کے بیانات کا جائزہ لیں تو

آپ کے لیے ان جملوں کو مکمل کرنا کتنا آسان تھا؟ آپ نے اسے مکمل کرنے میں کتنا وقت لگایا؟ ہو سکتا ہے شروع میں آپ نے اسے جتنا آسان سوچا ہوا تنا آسان نہ لگا ہو۔ جب آپ ان جملوں کو مکمل کر رہے تھے تو آپ اپنے بارے میں، اپنے خود کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ اپنے بارے میں آپ اسی طرح جانتے ہیں جس طرح آپ اپنے آس پاس ماحول کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کہ کمرے میں رکھی ہوئی میز اور کرسی وغیرہ۔ ایک نوزائدہ بچا اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں خود اپنے بارے میں جانے کی جگہ تو شروع ہو جاتی ہے اور ”اپنی ذات“ کا تصور جڑ پکڑتا ہے۔ والدین، اساتذہ، دوست احباب اور دوسرے لوگ بچے کے ذہن کی اس جگتوں مطمئن کرنے میں بڑا ہم رول ادا کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا باطلہ ہمارے تجربات اور ان کو ہم جس طرح سمجھتے ہیں وہ معنی ہماری ذات کی کھوج کی بنیاد ہوتے ہیں۔

زندگی کے ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جو خود اس فرد سے متعلق ہوتے ہیں جیسے ذاتی آزادی، ذاتی ذمہ داری، ذاتی حصول اور اس کے ذاتی عیش و آرام۔ خودی کے سماجی پہلو پر دوسری چیزوں اثر انداز ہوتی ہیں جیسے تعاون، اتحاد، الحاق، قربانی اور تائید وغیرہ۔ ذات کا یہ پہلو خاندان اور سماجی رشتہوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ خاندانی یا سنتی پہلو بھی کہا جاسکتا ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے خود کو ایک ہستی یا وجود کے طور پر بیان کیا ہے جو کچھ کرتا ہے (مثلاً میں ایک رقص ہوں) یا پھر ایسی ہستی کے طور پر بیان کیا ہے جس پر کوئی عمل کیا گیا ہے مثلاً مجھے بہ آسانی صدمہ پہنچایا جاسکتا ہے بمعنی میں بہت حساس ہوں، پہلے کیس میں خود کو ”فائل“ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جب کہ دوسرے میں خود کو ”مفہول“، بنا کر پیش کیا ہے مطلب کہ اس پر کسی عمل کو آزمایا گیا ہے۔

خودی کے وقفي اور کرداری پہلو

دنیا کے تمام حصولوں میں ماہرین علم نفسیات نے خودی یا ذات کے مطالعے میں دل چسپی دکھائی ہے۔ ان مطالعوں سے ہمارے رویوں اور کردار کے بہت سے ایسے رخ سامنے آئے ہیں جو ہماری ذات سے مسلک ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمارے اندر اپنی شناخت کا احساس ہوتا ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے الگ کیسے ہیں۔ ہم اپنی ذات کی فردی اور سماجی شناخت سے چھٹے رہتے ہیں اور یہ سوچ کر محفوظ تصور کرتے ہیں کہ ہماری شناخت کا یہ پہلو مستحکم ہے اور تازندگی رہے گا۔

جس طرح ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کا ادراک ہوتا ہے اس تصور کو ہی خود کی ذات کا تصور کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ نظریہ کلی ہے خواہ ثابت ہو یا منفی۔ لیکن کسی مخصوص سطح پر یہ تصور بھی مخصوص ہوتا ہے جیسے ایک فرد اپنی کھیل کو دصلاحیتوں کے بارے میں ثابت نظریہ رکھتا ہے لیکن اپنی تعليمی صلاحیتوں پر اس کا نظریہ منفی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی فرد اچھا مطالعہ کر سکتا ہے لیکن ریاضی کی مہارت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ کسی بھی فرد کا اس کی ذات کے تجزیے کے بارے میں علم آسان کا نہیں ہے۔ اس کام میں سب سے زیادہ مستعمل طریقہ، خود اس فرد سے اس کے بارے میں جان کاری حاصل کرنا ہے۔

خود پسندی یا نفس پرستی

خود پسندی ہماری ذات (خودشناصی) کا ایک اہم پہلو ہے۔ فرد کے طور پر ہم

اس کا مطلب ہے کہ خودی یا ذات فاعل اور مفعول دونوں طریقوں سے سمجھی اور پرکھی جاسکتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ”مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں“ تو آپ خود کو جانکار کے طور پر بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس جملے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز ہیں، ایسی ہستی ہیں جس کو جانا جاسکتا ہے۔ بطور فاعل (عامل) فردا پنے آپ کو جانے کے عمل میں مصروف ہے۔ جب کہ بطور مفعول کسی اور کے ذریعے جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ خودی کا یہ دورخی رتبہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔

خودی کی اقسام

خودی کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ ہمارے طبیعتی، سماجی اور تہذیبی ماحول کے آپسی تعلق سے وجود میں آتی ہیں۔ خودی کا سب سے پہلا عنصر اس وقت محسوس کیا جاسکتا ہے جب ایک نوزائدہ بچہ بھوک کے وقت دودھ کے لیے چلاتا ہے۔ حالانکہ یہ بچہ و پکار ابتدائی طور پر اضطراری ہوتی ہے لیکن بعد میں یہی ایک آگہی بن جاتی ہے کہ ”میں بھوکا ہوں“، خود کی یہ حیاتیاتی شناخت بچے کے سماجی و تہذیبی ماحول کے پس منظر میں پروان چڑھتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایک چالکیٹ کے لیے بھوک لگ رہی ہو لیکن ایک ایکیمو ایسا محسوس نہیں کرتا۔ ذاتی اور سماجی خودی کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ خودی کا ذاتی تصور وہ ہے جس میں انسان صرف اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ کس طرح ہماری حیاتیاتی ضروریات ہماری حیاتیاتی ہستی کی نشوونما کرتی ہیں لیکن جلدی ہی بچے کی نفسیاتی اور سماجی ضروریات اس کے ماحولیاتی پس منظر میں اس کی ہستی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنے لگتی ہیں۔

طور پر پہچانا جاتا ہے۔ وہ بچے جن کے والدین ایسے وقت میں بھی فیصلے لئے میں ان کی مدد کرتے ہیں جب انھیں اس مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان بچوں میں خود پسندی کا فقدان ہوتا ہے۔

قوت ارادی

ہماری ذات کا یہ ایک اور اہم پہلو ہے۔ انسانوں کے عقیدے میں اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ آیا وہ خود اپنی زندگی کی باگ ڈور سنبھالتے ہیں یا زندگی میں پیش آنے والے مختلف مراحل قسمت کا کھیل یا مقدر ہوتے ہیں یا کوئی دیگر محل وقوع عناصر جیسے کہ کسی امتحان میں کامیاب ہونا۔ کسی بھی انسان کا یہ یقین کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات کو قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے۔

موثر شخصیت کا یہ تصور بندورا کی سماجی آموزش کے نظر یہ پہنچی ہے۔ بندورا کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچے اور بڑے دوسروں کے رویوں کو دیکھ کر اور ان کی نقل میں اپنا ایک ذاتی رویہ اپناتے ہیں۔ لوگوں کی قابلیت، الہیت یا حصولیابی کی توقعات اور اپنی خود کی اثر پذیری کے بارے میں ان کی حتیٰ رائے بھی ان کے برداشت کو طے کرتی ہے جن میں وہ مشغول ہوتے ہیں، جو علم کی مقدار موثر شخصیت ہونے کا ایک زبردست احساس انسان کے اندر اپنے حالات کو متاثر کرنے اور ان حالات کی تغیری کرنے کا موقع دیتا ہے جن لوگوں میں ارادے کا یہ احساس مضبوط ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوتے ہیں۔

یہ احساس انسان میں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ موثر شخصیت اور قوت ارادی رکھنے والے لوگ جس لمحے یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اب سگریٹ نوشی نہیں کریں گے، اسی وقت ان کی یہ عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ہمارا سماج، ہمارے والدین اور خود ہمارے ثابت تجربات ہمارے اندر ایک مضبوط قوت ارادی پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں اگر بچوں کی زندگی کے تشکیلی دور میں ان کے سامنے ثبت نਮونے رکھے جائیں۔

ہمیشہ اپنی قدر و منزلت کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ خود اپنے بارے میں اپنی قدر کا فیصلہ کرنا ہی خود پسندی کہلاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں کم۔ کسی بھی فرد کا جذبہ خود پسندی جانچنے کے لیے ہم اس کے سامنے مختلف بیانات رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ان بیانات میں خود اس کی ذات سے متعلق کتنی سچائی ہے وہ بتائے۔ مثال کے طور پر ہم ایک بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دے ”میں ہوم درک اچھی طرح کرتا ہوں“ یا ”میں اکٹر کھیل کے لیے منتخب کیا جاتا ہوں“۔ یا ”میں اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول ہوں“۔ اگر ان سوالوں کا جواب بچہ ”ہاں“ میں دیتا ہے تو وہ انتہائی خود پسند ہے بہت اس بچے کے جس کے جواب ”نہ“ میں ہوں۔

مطالعوں سے پتہ چلا ہے کہ 6 تا 7 سال کی عمر تک بچوں میں کم سے کم چار پہلوؤں پر خود پسندی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ہیں تعلیمی مسابقت، سماجی اہلیت، جسمانی و کسرتی الہیت اور ظاہری جسمانی ساخت۔ اور یہی چاروں پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مزید پہنچتے ہیں۔ ہماری اپنے طبعی میلان کو پرکھنے کی صلاحیت ہی ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پرکھ کر اپنا ایک عام نفسیاتی ٹکس تغیر کر سکیں۔ خود پسندی کے ایک عمومی مفہوم کے طور پر اسے جانا جاتا ہے۔



خود پسندی ہمارے روزمرہ کے رویوں سے گھرے طور پر منسلک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جن بچوں میں تعلیمی صلاحیتیں بد رجاءً اتم موجود ہوتی ہیں وہ نسبتاً کم صلاحیت والے بچوں کے مقابلے اپنے اسکولوں میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب کہ جن بچوں میں سماج میں مقبول ہونے کی صلاحیت رہتی ہے وہ اپنے ساتھیوں میں دوسروں کے مقابلے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کم صلاحیت والے بچے (جو ہر پہلو پر ناکام ہوتے ہیں) ایک قسم کی تشویش اور افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کا رویہ سماج مخالف ہو جاتا ہے۔ مطالعوں سے پتہ چلا ہے کہ والدین کا پر جوش اور ثابت رویہ بچوں میں خود پسندی کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے کیوں کہ اس طرح بچے سمجھتے ہیں کہ ان کو قابل اور با مصرف شخصیت کے

خودضابطگی

خودضابطگی ہمارے برتابو کو پرکھنے اور ضابطہ بند کرنے کی ہماری الہیت کی عکاسی کرتی ہے۔ جو لوگ یہ وہی ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے رویے کو ڈھال سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرکھ سکتے ہیں۔

زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جب ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر حالات کے دباو سے مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ عام طور پر یہ ہماری ”قوت ارادی“، کہلاتا ہے۔ بطور انسان ہم اپنا راویہ جیسے ہم چاہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی کچھ ضرورتوں کی تکمیل کو ملتی کرتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو موقوف کرنے کی صلاحیت ہی قوت ضبط نفس کہلاتی ہے۔ ضبط نفس ہمارے بہت سے دیرینہ خوابوں کی تکمیل میں ہم رول ادا کرتا ہے۔ ہندوستانی ثقافتی روایات ہمیں کئی ایسے طریقوں سے روشناس کرتی ہیں (جیسے ”ورت یاروزہ“ اور مادی چیزوں سے لگاؤ نہ رکھنا وغیرہ) جن سے ضبط نفس کی قوت مستحکم ہوتی ہے۔

ضبط نفس کے لیے کئی نفسیاتی تکنیک بھی اپنائی جاسکتی ہیں۔ خود اپنے کردار کو پرکھنے کی تکنیک ان میں سے ایک ہے۔ یہ طریقہ ہمیں ایسی معلومات بھم پہنچاتا ہے جس کو ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ خودآموزی ایک دوسرا طریقہ ہے۔ ہم اکثر خود اپنے کو حکم دیتے ہیں کہ



شکل 2.1 ہندوستانی و مغربی ثقافتی تناظر میں فرد اور گروہ کی حدبندی

معروف، کی سطح پر بھی ہے۔ ہندوستانی فکر اس طرح کی صاف تقسیم نہیں رکھتی۔

شکل 2.1 میں اس تعلق کو خاکہ کے ذریعہ دکھایا گیا ہے۔

کیسے رویہ اپنا کیں اور پھر اپنے من چاہے طریقے سے ہی برتابو کرتے ہیں۔

خودآموزی کے یہ احکامات ضبط نفس کے لیے بہت کارگر ہوتے ہیں۔ خود کی

کرتی ہے جو انسان کچھ خاص عرصے میں اور مختلف حالات میں استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ بار بھی سے معاشرے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا رو یہ مختلف النوع ہوتا ہے۔ ایک شخص ہمیشہ ہی خبردار یا اضطرابی کیفیت میں نہیں ہوتا یا سدا ہی شرمیلا یا دوستانہ بھی نہیں رہتا۔ شخصیت انسان کو اس کے مختلف حالات میں اعمال سے اجاگر کرتی ہے۔ مختلف اوقات اور مختلف حالات میں انسان کے کردار، سوچ اور جذبات کا استحکام ہی اس کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مثلاً ایک ایماندار انسان ہر حالت میں اور ہر وقت ایماندار ہی رہے گا۔ انسان کے کردار میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جو اس کے ماحول کی دین ہوتی ہیں۔

مخصرًا شخصیت درج ذیل خصوصیات کی بنابر جا پہنچی جاتی ہے

-1 اس میں نفسیاتی اور جسمانی دونوں عضروں ہوتے ہیں۔

-2 ہر فرد کے کردار کا اظہار ایک الگ مخصوص ڈھنگ سے ہوتا ہے۔

-3 شخصیت کے خصائص وقت کے ساتھ بآسانی تبدیل نہیں ہوتے۔

-4 یہ بردست محرك ہے کیوں کہ اس کی کچھ خصوصیات اندر ورنی یا پر ورنی حالات کے پیش نظر تبدیل ہو جاتی ہیں۔

جب ہم ایک بار کسی کی شخصیت کا تعین کر لیتے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کن حالات میں کس طرح عمل کرے گا۔ کسی کی بھی شخصیت کے بارے میں معلومات ہمیں اس سے حقیقی اور قابل تسلیم طریقوں سے بات کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایسا کوئی بچہ ملے جو کسی بھی حکم کی تقلیل نہ کرتا ہو تو اس سے رابطہ بنانے کا بہترین طریقہ ہو گا اس کو احکامات نہ دیے جائیں بلکہ اس کے سامنے ایسے قابل تسلیم ترجیحات رکھی جائیں جن میں سے بچھوپاناطریقہ کا منتخب کر سکے۔ اسی طرح ایک بچہ جس کے اندر احساس کم تری ہو، اس کو کسی دوسرے بچے (جو پوری طرح خود اعتماد ہے) کے مقابلے دوسری طرح سے سلوک کیا جائے گا۔

انسان کے کردار کی خصوصیات کو پیان کرنے کے لیے اور بھی بہت سی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ ترکیبیں شخصیت کے متراffد

مغری تہذیب میں انسان اور انسانوں کا گروہ دو الگ الگ موجودات کے طور پر نظر آتے ہیں جس میں دونوں کی مقررہ حدود ہیں۔ کسی بھی گروہ کے ممبران ذاتی طور پر اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب میں ”خود“ کو گروہ سے الگ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دونوں ہم آہنگ ہم وجودیت کی سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ مغربی تہذیب میں یہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی مغربی تہذیبیں فردیت پسند کہلاتی ہیں جب کہ ایشیائی تہذیبوں کو اجتماعیت پسند کہا جاتا ہے۔

شخصیت کا تصور

”شخصیت“ کی اصطلاح اکثر ہمارے روزمرہ کے مباحثوں میں سامنے آتی ہے۔ ”شخصیت“ کے معنی دراصل لاطینی لفظ ”Persona“ سے مأخوذه ہے۔ یہ ایک قسم کا نقاب یا نقیلی چہرہ ہوتا تھا جو رومی تھیٹر میں کام کرنے والے کردار اپنے چہرے کے میک اپ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ناظرین یہ امید کرتے تھے کہ ماں سک پہنچنے کے بعد انسان ایک مخصوص طریقے سے کھیل کھیلے گا۔ بلاشبہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسان جو کردار بھارہا ہو اس کی تمام خوبیاں اس میں ہونی چاہئیں۔

عام انسان کے لیے شخصیت کا مطلب ہے کسی بھی فرد کی ظاہری جسمانی ہیئت۔ مثلاً اگر ہم کسی خبرو انسان کو دیکھتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ وہ سارہ ان شخصیت کا مالک ہو گا۔ شخصیت کا یہ تصور ایک سطحی مفروضہ ہے جو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو۔

نفسیات کی اصطلاح میں ”شخصیت“ عام لوگوں اور حالات کے جوابی عمل کے طریقوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لوگ آسانی سے بتاسکتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے حالات میں کس طرح عمل کرتے ہیں۔ کچھ مخصوص اصطلاحات (جیسے شرمیلے، حسّاس، خاموش، پر جوش، وابستہ وغیرہ) اکثر و بیشتر شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام الفاظ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح ”شخصیت“ انسان کی ان قدرے متنبّم اور مخصوص صلاحیتوں کو ظاہر

اور طرز فکر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک خاص فرد کے رویتے میں پیدا ہونے والے توافقی عصر کو سمجھنے کے لیے بھی مختلف طرز فکر ہیں۔ یہ تمام نظریات انسانی روپیوں کے مختلف طرزوں پر منحصر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کچھ خصوصیات پر روشنی ڈالتا ہے لیکن شخصیت کی تمام پرتوں کو نہیں کھولتا۔

ماہرین نفیات "شخصیت" کے نظریات میں اقسام اور خصوصیات کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اقسام بتانے والے نظریات انسانی شخصیت کو

ہوتی ہیں۔ بس 2.1 میں اسی طرح کی کچھ اصطلاحات اپنی شناختی خصوصیات کے ساتھ دی گئی ہیں۔ آپ ان کو توجہ سے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح شخصیت کے تصور سے مختلف ہیں۔

شخصیت کے مطالعے کے لیے مختلف طرز فکر

شخصیت کے مطالعے میں معروف ماہرین نفیات ان مطالعوں کے ذریعہ ہی

بکس
2.1

شخصیت سے متعلق اصطلاحات

اقداد مراج: رُدِّ عمل کا حیاتیات پر مبنی وصف

خاصہ: کردار کا مستحکم، مستقل وصف

میلان طبع: کچھ خاص حالات میں انسان کے رُدِّ عمل کا رجحان

سیرت: کردار کا اجتماعی یا کلی طریقہ

عادت: انسان کے برداشت میں آزمودہ طریقہ

قدار: وہ مقاصد اور نصب اعتمین جن کو حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے

سمجھنے کے لیے افراد کی کرداری خصوصیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر ایک نمونہ ایک ایسی قسم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں ایک طرح کی خصوصیات کے حامل افراد ایک ہی طرح کے حالات میں کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس خصوصیات کا مطالعہ کچھ مخصوص نفیاتی صفات پر مرکوز ہوتا ہے جن میں فرد مستقل اور مستحکم طریقے سے اختلاف رائے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ زیادہ شر میلے ہوتے ہیں اور کچھ کم، کوئی فرد زیادہ دوستانہ طبیعت کا ہوتا ہے اور کوئی بالکل دوستانہ نہیں ہوتا۔ یہاں "شرم" اور "دوستی" انسان کی شخصیت کے اس خاص وصف کو ظاہر کرتے ہیں جس کے ذریعے فرد کرداری اس خصوصیت کی موجودگی اور عدم موجودگی، دونوں طرح کے حالات میں پرکھا جاسکتا ہے۔ آپسی رابطہ (بین علمی) کا نظریہ کہتا ہے کہ حالات ہمارے برداشت کو تعین کرنے میں ایک بڑا روں ادا کرتے ہیں۔ لوگ آزادانہ یا تابع رو یہ اپنی ذاتی وصف کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ ان کو کچھ مخصوص حالات میں

انسان یا فرد واحد کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیوں کے جواب یا وجہات تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ ایک ہی خاندان کے دو بچے کس طرح ڈرامائی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ صرف جسمانی طور سے ہی مختلف نہیں ہوتے بلکہ وہ دونوں مختلف حالات میں بالکل الگ انداز سے عمل کرتے ہیں۔ یہ مشاہدات ہمیں کچھ سوالات کرنے پر مجبور کرتے ہیں "ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں مختلف لوگ مختلف رُدِّ عمل کا اظہار کرتے ہیں؟ اور وہ دوسروں سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟" ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کھم بھرے کاموں سے اطف اندوز ہوتے ہیں جب کہ کچھ دوسرے لوگ پڑھنے (مطالعہ)، ٹیلی ویژن دیکھنے اور کارڈ کھینے میں دل چسپی رکھتے ہیں۔ کیا یہ اختلافات کسی انسان کی زندگی میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں یا پھر یہ وقت اور حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں؟"

انسانوں میں کردار کے اختلافات کو سمجھنے کے لیے بہت سے نظریات

وضع قطع اور مزاج کو بنیاد مان کر شیلڈن نے فربہ شکم، قوی اندام اور لاغر اندام اقسام پیش کی ہیں۔ فربہ شکم موٹے، اور گول ہوتے ہیں۔ مزاجاً وہ آرام پسند اور صحبت پسند ہوتے ہیں۔ قوی اندام افراد قوی اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا جسم مضبوط کاٹھی کا اور لمبا ہوتا ہے۔ وہ محنتی اور باہمیت ہوتے ہیں۔ لاغر اندام لوگ جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے دبلے، لمبے اور نازک ہوتے ہیں۔ مزاجاً وہ لوگ ڈین، فن کے ماہر اور درون بین ہوتے ہیں۔

ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جسمانی وضعیت بالکل سیدھی ہیں اور انسان کے رویہ یا مزاج کے بارے میں کوئی رائے اپنانے میں ان کا رول ایک حد تک ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف سبکات کا درجہ رکھتی ہیں۔

یونگ نے ایک الگ خاکہ پیش کیا ہے جس میں لوگوں کی درجہ بندی درون بین اور بیرون بین اقسام میں کی گئی ہے۔ اس خاکے کو خاصی معقولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق درون بین وہ لوگ ہیں جو تنہار ہنا چاہتے ہیں، دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں، جذباتی تصادم میں خود کو الگ کر لیتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں۔ بیرون بین افراد اس کے برعکس صحبت پسند اور متصرف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اوپر ہونے والے دباؤ کے عمل کے طور پر سماج اور افراد میں اپنے کو گم کر دیتے ہیں۔

حال ہی میں فرانڈ میں اور روزن میں نے افراد کی شخصیت کی تقسیم ٹائپ اے اور ٹائپ بی کے طور پر کی ہے۔ یہ دونوں ماہرین انسانی نسبیت میں جو کھنام اٹھانے کے عصر کی تحقیق کر رہے تھے جب انھیں شخصیت کی ان اقسام کا علم ہوا۔ جو لوگ اے ٹائپ کی شخصیت میں شمار ہوتے ہیں وہ زبردست تحریک کے حامی ہوتے ہیں، ان میں صبر کا فقدان ہوتا ہے، وقت کو ہمیشہ مختصر سمجھتے ہیں اور جلدی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کام کے بو جھ سے دبے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آرام کرنا یاد چیزیں رفتار سے کام کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا اثر بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ٹائپ اے کے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر سے کہیں زیادہ دل کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے بہ نسبت سگریٹ نوشی اور

ملنے والے انعام و اکرام یا ڈھمکیاں ان کے اس کردار کو طے کرتے ہیں۔ انسانی طبیعت کے خاصے کا یقیناً حالات کے تانے بانے میں کافی الجھا ہوا ہے۔ حالات کا دباؤ یا اثر لوگوں کے رویوں پر بازار میں، کچھری میں یا عبادت گاہ میں، کہیں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

نوعی طرز فکر

جیسا ہم پہلے کہے چکے ہیں کہ شخصیت کی اقسام فرد کے یکساں برداشت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ لوگوں کو شخصیت کی اقسام کی بنیاد پر درجہ بند کرنے کی کوششیں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں۔ یونانی طبیب ہیوکرات نے شخصیت کی ایک وضعی شکل پیش کی تھی جو مزاج کی بنیاد پر تھی۔ اس نے افراد کی تقسیم چار طرح سے کی تھی (عنی، دصوی، بلغمی، مالی خولیائی، اور صراوی) یعنی تندرخوان میں سے ہر ایک کچھ مخصوص خصائص کا حامل ہے۔

ہندوستان میں بھی آیورویدی مخصوص کتاب ”چرک سمعہتا“ میں افراد کی تقسیم وٹا، پٹا اور کافا کے ناموں سے کی گئی ہے جو انسانی مزاج کے تین عناصر پر مبنی ہے۔ اس سہ عناصر تقسیم کو ”تری دوشا“ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک انسان کی اس اقتاد مزاج کی عکاسی کرتا ہے جس کو انسان کی بنیادی فطرت (پرکرتی) کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شخصیت کی ایک وضع ”تری گن“ پر مختص ہے جیسے کہ ستو، راجس، اور تمس۔ ستو گن میں انسان کے کردار کی پاکیزگی، سچائی، ذمہ داریوں کے تین سنجیدگی، بے تعلقی کا احساس اور باضابطگی جیسے خصائص شمار کیے جاتے ہیں۔ راج گن میں انسان کے مزاج کی شدت پسندی، تیکین حس کی خواہش، غیر اطمینانی حالت، حسد اور مادیت پسند ذہنیت شمار کی جاتی ہیں۔ تمس گن فرد کے مزاج میں غصہ، تکبیر، افسردگی، سستی، کاہلی اور محرومیت کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تیوں ہی گن ہر انسان کے مزاج میں موجود ہوتے ہیں ہا ل ان کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ انسان کے مزاج میں کسی بھی ایک گن کا غلبہ اس کے مزاج کی وضع طے کرتا ہے۔

علم نسبیت میں شیلڈن کا نظر یہ شخصیت خاصا اہم مانا جاتا ہے۔ جسم کی

مختصر طور پر اے خصائیں عموماً ممکن ہوتے ہیں۔ بی اکثر ہر طرح کے حالات میں یکساں رہتے ہیں، اور سی ان خصائیں کی قوت اور ان کے مرکبات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

بہت سے ماہر نفیات نے شخصیت کے بارے میں اپنا طرز فکر وضع کرنے کے لیے ”خصائیں کے مطالعے“ کا سہارا لیا ہے۔ اب ہم کچھ اہم نظریات پر بحث کریں گے۔

آل پورٹ (All Port) کا نظریہ خصائیں سیرت

All Port کو اس طرز فکر کا موجود مانا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد کی طبیعت اور مزاج میں بہت سے وصف یا خصائیں ہوتے ہیں جو تحرک ہوتے ہیں۔ وہ انسان کے روئیے پر کچھ اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایک فرد مختلف حالات میں بھی ایک ہی طرح کا عمل کرتا ہے۔ یہ خصائیں متفرق اور مختلف نظر آنے والے اعمال کو بجگا کر دیتے ہیں۔ All Port کی دلیل ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بیان کرنے یا ظاہر کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہی الفاظ اس کی شخصیت کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی زبان کے ان الفاظ کا تجزیہ کیا جو انسانی خصلت اور سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر All Port نے ان خصائیں اور خصائص کو بنیادی، مرکزی اور ثانوی اقسام میں بانٹا ہے۔

بنیادی وصف دراصل انسان کا طبعی میلان ہے۔ یہ ان مقاصد کو بیان کرتا ہے جن کے اطراف انسان کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ مہاتما گاندھی کا ”عدم تشدد“ اور ہٹلر کا ”ناز ازم“ اسی قسم کے وصف کی مثالیں ہیں۔ اس طرح کی خصوصیات کسی انسان کے نام کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑ جاتی ہیں کہ ان اوصاف کی شناخت ان ناموں سے ہونے لگتی ہے جیسے گاندھیائی یا ہٹلر ان وصف۔ کم سراحت کرنے والے یا کم اثر کرنے والے رجحانات مرکزی وصف کہلاتے ہیں۔ یہ اوصاف (جیسے پر جوش، مستعد اور پر خلوص ہونا) اکثر اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی کو کوئی سرٹیفیکٹ دینا ہو یا اس کو کسی

بڑھے ہوئے کو لٹرال کی سطح سے۔ ٹائپ بی قسم اس کے بالکل برعکس ہے جس کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ ان افراد میں ٹائپ اے والا کوئی بھی وصف نہیں ہوتا۔ اس خاکے کو Morris نے وسعت بخشی اور ایک ٹائپ سی، قسم کی شخصیت پیش کی ہے جو کینسر (سرطان) جیسی مہلک بیماری کے لیے بے حد حساس ہوتی ہے۔ اس قسم کے افراد معاون اور صابر ہوتے ہیں اور کسی قسم کا دعویٰ کرنا ان کا مسلک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے منفی جذبات جیسے غصہ وغیرہ کو دبای دیتے ہیں اور حاکم کے تین تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تازہ ترین تحقیق میں ایک اور قسم ٹائپ ڈی، شخصیت بھی سامنے آئی ہے۔ اس قسم کے افراد خصوصاً افسر دیگی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

شخصیت کے بارے میں بنائے گئے یہ خاکے عموماً دلچسپ اور بہت آسان ہیں۔ انسان کا مزاج یا روئیہ خاصاً پیچیدہ اور غیر یکساں ہے۔ اس لیے افراد کو ایک خاص قسم کی شخصیت کے خانے میں رکھ دینا مشکل ہے۔ افراد اتنی آسانی سے ان اقسام میں فٹ نہیں ہوتے ہیں۔

خاصہ امتیازی وصف کا طرز فکر

یہ نظریہ شخصیت کے بنیادی اجزاء کی خصوصیات پر مشتمل ہے۔ اس طرز فکر میں ماہرین شخصیت کی گروہ بند تعمیر کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی نفسیاتی خصوصیات میں تغیر اور انحراف ہوتا ہے۔ لیکن ان کو شخصیت کے چھوٹے چھوٹے مخصوص زمروں میں سمجھنا ممکن ہے۔ انسان کے خصائیں کا مطالعہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے تجربات کے مثال ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص صحبت پسند ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نہ صرف معافون، بدگاہ اور دوست ہو گا بلکہ اس کے روئیے میں دوسرے سماجی افراد بھی موجود ہوں گے۔ اس طرح خصائیں کا مطالعہ افراد کی بنیادی خصوصیات کی شناخت کرتا ہے۔ خصلت یا خصوصیت انسان کے کردار کا وہ جزو ہوتی ہے جس کی وجہ سے افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان خصائیں میں وہ روئیے شامل ہوتے ہیں جو مختلف حالات کی مانگ ہوتے ہیں۔

نے ایک آزمائش کی جس کو 16 پی ایف کہا جاتا ہے۔ اس میں شخصیت سے متعلق 16 سوال ہیں جن کے جوابات کے ذریعہ کسی فرد کی شخصیت کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ یہ 16 پی ایف نام کا آزمائشی فارمولہ تقریباً تمام ماہرین نفیات استعمال کرتے ہیں۔

Eysenck کا نظریہ

H. J. Eysenck کا کہنا ہے کہ شخصیت کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ حیاتیاتی اور جینیاتی نیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ ہر پہلو یا پرت میں بہت سے خاص و صفت ہوتے ہیں۔ شخصیت کی تقسیم کے یہ پہلو یا سطھیں مندرجہ ذیل ہیں:

- 1۔ اعصابی بہ نسبت جذباتی استحکام: یہ عنصر انسان کی شخصیت کے اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے جس میں انسان کے اندر اپنے جذبات کو قابو کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اعصابی مریض ہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ موڈی، پرتوشیش، حساس اور بے چین ہوتے ہیں اور بہت جلدی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے۔ دوسری طرف ایسے افراد ہیں جو پرسکون اور بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر حالت میں اپنے اوپر قابو کہتے ہیں۔
- 2۔ بیرونی بینی بہ نسبت درون بینی: یہ شخصیت کے اس پہلو کا مطالعہ ہے جو افراد سماج میں میل جوں رکھتے ہیں جو چست ہیں، مضطرب رہتے ہیں، گروہ پسند ہیں اور ہمیشہ سنسنی خیز کاموں میں دچکی لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے افراد ہیں جو مست ہیں، خاموش اور خبردار ہیں، اور بہت درون بینی نظرت کے مالک ہیں۔

بعد میں Eysenck نے ایک تیرا پہلو بھی پیش کیا جس کو جنوبیت بمقابلہ سماجیت (سماج پسندی) کا نام دیا ہے۔ یہ پہلو ابتدائی دونوں عوامل کے آپسی ربط میں کام کرتا ہے۔ ایسا فرد جو جنوبی فطرت کا حامل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خود پسند اور سماج مخالف ہوتا ہے۔ Eysenck کا ”شخصیت کا سوال نامہ“

نوکری کے لیے نام زد کرنا ہو سب سے کم تعلیمی خصوصیات کو ثانوی اوصاف کا درج دیا گیا ہے۔ ایسے رجනات جیسے آم پسند کرنا، کچھ مخصوص لباس استعمال کرنا وغیرہ ثانوی اوصاف کی مثالیں ہیں۔ جب کہ All Port نے بھی مانا ہے کہ انسان کے حالات کا اس کے رویوں پر اثر پڑتا ہے۔ پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک فرد کچھ مخصوص حالات میں عمل کرتا ہے، وہ اس کے کردار کی خصوصیتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ حالاں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جیسی خصوصیات کے حامل افراد اپنے اپنے طور پر اپنے حالات میں ان اوصاف کو مختلف طرح سے ظاہر کریں۔ All Port نے انسان کی طبیعت یا مزاج کے ان اوصاف کو داخلی غیر یکساں عصر کے طور پر مانا ہے جو کوئی بھی فرد اچانک درپیش حالات میں رد عمل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان خصالیں میں کوئی بھی تبدیلی ایک ہی جیسے حالات میں فرد کے مختلف النوع کو ظاہر کرے گی۔

Cattell: شخصیت کرے عوامل

Raymond Cattell کا مانا ہے کہ افراد عام طور سے اپنی ہیئت کے اعتبار پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور یہ ہیئت تجرباتی طور پر متعین کی جاسکتی ہے۔ Raymond Cattell لغوی خصوصیات (وہ خصوصیات جو لسانی طور سے زبان کا حصہ ہوتی ہیں) میں سے کچھ بنیادی اوصاف کا انتخاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے عوامل کے تجزیے کی ایک تکنیک استعمال کی ہے جو ایک شاریاتی طریقہ کار ہے۔ اس طریقے سے Raymond Cattell نے بنیادی ہیئت کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مطالعے کے مطابق 16 بنیادی خصائص ہیں۔ بنیادی وصف مشکم ہوتے ہیں اور شخصیت کے معمار ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے وصف ہوتے ہیں جو اپری سطح پر کام کرتے ہیں۔ یہ اوصاف بنیادی اوصاف کے آپس میں رابطے سے وجود میں آتے ہیں۔ Raymond Cattell نے بنیادی اوصاف کو عکس رجනات کی روشنی میں سمجھایا ہے۔ اس کے لیے انہوں

شخصیت کا پانچ نکاتی نمونہ

روشنی میں دریافت کیا تھا۔ اپنے ابتدائی دور میں وہ اپنے مریضوں کی جسمانی اور جذباتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تنویم کا طریقہ استعمال کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بہت سے مریض اپنی مشکلات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں بات چیت کے بعد ان کو کافی، بہتر محسوس ہوتا ہے۔ فرانڈ نے آزادانہ ایجاد کا طریقہ اپنایا (ایسا طریقہ جس میں انسان فارمولہ دریافت کیا گیا ہے جس کے مطابق انسان کے کردار کے وصف کی

حال کے دنوں میں بنیادی اوصاف کی بحث نے ایک دچپ موز لیا ہے Robert McCrae اور Paul Costa نے شخصیت کے تمام اوصاف کا مطالعہ کیا۔ اس کے نتیجے میں پانچ عوامل سامنے آئے۔ ان کو اکثر اوقات پانچ بڑے عوامل کہا جاتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- تجربات کے تین کھلاپن: ایسے افراد میں تحسیس ہوتی ہے۔ وہ تصورات کی دنیا میں کوئے رہتے ہیں، نئے خیالات کا کھلدل سے مطالعہ کرتے ہیں اور تہذیبی سرگرمیوں میں دل چھپی لیتے ہیں۔ اس کے برکس جو لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے ان میں سختی اور درشتی ہوتی ہے۔
- 2- یہ دونوں میںی: یہ ایسا وصف ہے جو افراد کی سماجی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ لوگ سماج میں گھلے ملے ہوتے ہیں، باتوںی ہوتے ہیں اور پہنچ کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برکس وہ لوگ ہیں جو شرمنیلے ہوتے ہیں۔
- 3- مطابقت رکھنے کا وصف: یہ ایسے افراد کی خصوصیت جو معاون، مددگار اور دوست ہوتے ہیں۔ اس کے برکس ایسے افراد ہیں جو خود پسند اور غصیل ہوتے ہیں۔
- 4- جتوںیت: یہ عنصر اس وصف کو ظاہر کرتا ہے جس کی وجہ سے فرد میں جذباتی استحکام نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پریشان، پرتوشیش، ڈرپوک، بے چین اور ہمیشہ تناؤ میں رہتے ہیں۔ اس کے برکس وہ لوگ ہیں جو پر سکون رہتے ہیں اور حالات کے حساب سے خود کو ڈھال لیتے ہیں۔
- 5- فرض شناسی: شخصیت کا یہ پہلو فرد کے کردار کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے افراد اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ قابل بھروسہ، ذمہ دار، مصلحت پسند، سختی اور خود پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے برکس وہ لوگ ہیں جو بے چینی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ پانچ نکاتی فارمولہ شخصیت کی شناخت کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسی پر انحصار کر کے مختلف اقوام میں افراد کی شخصیت کو پہچانا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ یہ عوام لغوی اوصاف (جو الفاظ شخصیت کی خوبیاں یا اوصاف پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں) سے متفق ہیں اس لیے مختلف طریقہ کار سے شخصیت کی شناخت کی کوششوں میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے فی الحال یہ سب سے زیادہ تجرباتی نظریہ فکر ہے جس سے شخصیت کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

باکل انوکھے انداز میں گروہ بندی کی جاسکتی ہے۔ یہ نیا فارمولہ باکس 2.2 میں دیا گیا ہے۔

نفسی حرکیات کا نظریہ


شخصیت کے مطالعہ میں یہ ایک پسندیدہ نظریہ ہے۔ یہ سگمنٹ فرائٹ کے نظریے پر مبنی ہے۔ وہ ایک طبیب تھا اور اس نے یہ نظریہ اپنے مطب کے تجربات کی

کی جملی حرکت ارادی (ii) انا اور (iii) فوق انا۔ یہ تینوں عناصر غیر شعوری سطح پر کارف ما ہوتے ہیں اور افراد کے برتاؤ سے ان کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ (شکل 2.2)۔ یہاں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ تینوں عناصر صرف نظریات ہیں یہ حقیقی طبعی ڈھانچے نہیں ہیں۔ ہم ان سب معلومات پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

جملی حرکت ارادی

جملی حرکت ارادی: یہ فرد کی جملی طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ یہ فرد کی بنیادی خواہشات کی خودی تسلیم سے تعلق رکھتی ہے جیسے جنسی خواہشات، چارحانہ اضطراب کی فوری تسلیم ہیں۔ یہ خوشی اور مسرت کے ان اصولوں پر کارف ما ہوتی ہے جس کے مطابق لوگ صرف خوشی حاصل کرتے ہیں اور تکلیف کو نظر انداز کرتے ہیں۔ فرائد کے مطابق انسان کی جگہ اکثر ویژہ تر جنسی رجحان کی حامل ہوتی ہے اور بقیہ تو تیس چارحانہ ہوتی ہیں۔ انسان کی یہ خواہش یا جبلت اخلاقی اقدار، سماج اور دوسرے افراد کی پروانیوں کرتی ہیں۔

انا: یہ غصر بھی فرد کی شخصیت میں اس کی بنیادی جبلت کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے۔ اور یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل حقیقی طور پر ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے یہ حقیقی اصولوں پر منحصر ہوتا ہے اور اکثر فرد کی جملی حرکتوں کو مناسب طریقہ کارکی طرف موڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا جو آئس کریم کھانا چاہتا ہے تو اس کا جملی ارادہ اس کو یہ مشورہ دے گا کہ آئس کریم کو جھپٹ کر



شکل 2.2 فرائد کے نظریہ کے مطابق شخصیت کا ڈھانچہ

جنہاں تیسرا میں رکھتے ہیں۔ اس نظریہ میں انسان کے ذہن کو شعوری کی تین سطحوں پر پکھا گیا ہے۔ پہلی سطح شعوری کی ہے۔ اس کو ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انسان کی سوچ، محسوسات اور وہ اعمال شمار کیے جاتے ہیں جن سے دوسرے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ دوسری سطح قبل شعوری ہے۔ اس میں انسان کے دماغ کی وہ حرکات شمار ہوتی ہیں جن سے افراد اس وقت واقف ہوتے ہیں جب وہ اس کو قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ تیسرا سطح بے شعوری ہے۔ اس سے عموماً لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔

فرائد کے مطابق بے شعوری حرکات حیوانی اور جملی حرکات کا ذخیرہ ہیں۔ ان میں انسان کے وہ تمام خیالات اور خواہشات بھی شامل ہوتی ہیں جن سے وہ شعوری طور پر باخبر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے یہ نیکیاتی تصادم کی طرف لے جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر جنسی خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جن کو کھلے طور پر ظاہر نہیں کیا جاسکتا، اسی لیے اکثر یہ دبادی جاتی ہے۔ لوگ مستقل اپنے بے شعوری حرکات کو سماجی طور پر تسلیم کروانے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے ذرائع ڈھونڈتے وقت وہ خود کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تصادم کا یہ ناکام انجام ان کے غیر معمولی رویوں پر منصب ہوتا ہے۔

بھول جانے کی عادت، غلط تلفظ، پہنچی مذاق والے لاطائف اور خواب و خواہشات ہمیں انسان کی بے شعوری سطح کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ فرائد نے ایک مصلحتی طریقہ ایجاد کیا جس کو تخلیل نفسی کہتے ہیں۔ اس طریقے کا بنیادی مقصد ہے ہونے غیر شعوری خواہشات کو شعوری سطح پر لانا ہے۔ اس طرح یہ افراد کو ایک خودشناس اور سلیمانیہ ہونے ماحول میں رہنے میں مددگار ہوگی۔

سرگرمی 2.2

اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی شخصیت کا ایک پہلو تبدیل کریں تو آپ کون سا پہلو بدناپسند کریں گے اور کیوں؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ آپ کی شخصیت کا کون سا پہلو ایسا ہے جسے آپ کبھی تبدیل کرنا پسند نہیں کریں گے؟ ایک اقتباس لکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے؟

شخصیت کا ڈھانچہ

فرائد کے نظریہ کے مطابق شخصیت کے بنیادی عناصر تین ہیں اور وہ ہیں: (i) فرد

بھاگنا چاہتا ہے۔ اس لیے جس انداز سے لوگ برتاؤ کرتے ہیں، وہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ان کی انا تشویش یا خطرے کے وقت کس طرح عمل کرتی ہے۔ فرانڈ کا ماننا ہے کہ لوگ تشویش سے بچنے کے لیے دفاعی تدبیر اختیار کرتے ہیں اور یہ تدبیر میں انا کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور بنیادی ضروریات کو علم میں رکھ کر کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ حفاظتی تدبیر میں تشویش کو کم کرتی ہیں اور اس کام میں حقیقت کو منع کر دیتی ہیں لیکن کچھ حد تک یہ طریقہ نارمل بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے کا استعمال حقیقت سے دور رہ کر کرتے ہیں ان کے کردار میں بہت زیادہ بد نظری ییدا ہو جاتی ہے۔

اس حفاظتی طریقے کی بھی فرانڈ نے کئی اقسام بیان کی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم احتباں ہے۔ اس قسم کے رویے کو شعوری سطح پر بالکل نہیں تسلیم کیا جاتا۔ جب افراد اپنی کسی خواہش کو دبانتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے پوری طرح بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ”مجھے نہیں معلوم میں نے ایسا کیوں کیا؟“ تو اس جملے میں اس کی شخصیت کا یہ عنصر نمایاں ہوتا ہے۔

دوسرے اہم حفاظتی طریقے اخلال، انکار، ردِ عمل اور تنکویل (تاویلی) ہیں اخلال طریقہ کار میں افراد اپنی خصوصیات کو دوسرے افراد کے سرمنڈھ دیتے ہیں۔ اس لیے ایسا فرد جس میں جارحانہ رجحانات زیادہ ہوں، وہ دوسرے افراد کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے افراد بھی اس سے جارحانہ انداز سے بات کرتے ہیں۔ انکار کے طریقے میں فرد حقیقت کو ماننے سے پکڑ رکھ دیتا ہے۔ مثلاً ایک اتنی آئی وی ایس کا مریض اس امر سے بالکل انکار کر دیتا ہے کہ وہ ایک مہلک بیماری میں بتلا ہے۔ ردِ عمل فرد کے ایسے رویوں کو منتخب کرنے میں مدد کرتا ہے جو اس کو فکر اور پریشانی سے بچائیں۔ ایسے میں انسان اپنی حقیقی حیات کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو شدید جنسی خواہشات رکھتا ہو، لیکن خود کو نہ ہبی کاموں میں غرق کرے، اس قسم کے ردِ عمل کی مثال ہے۔ تکویلی طریقے میں انسان اپنے ناجائزیا بے کار محوسات کو کار آمد اور قابل تسلیم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً اگر ایک طالب علم

کھا جائے۔ لیکن اس کی انا اس کو اس حرکت سے باز رکھے گی اور اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر اس نے آئس کر کریم چھین کر کھائی تو اسے سزا ملے گی۔ حقیقت اصولوں کی بنا پر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کی اس خواہش کی تسکین کا بہتر ذریعہ یہ ہے کہ وہ اسے کھانے کی اجازت مانگے۔ اس طرح جلت فردوغیر حقیقت اور مقاضی خواہشات کے لیے اکساتی ہے اور صرف ان خواہشات کی تسکین کرنا چاہتی ہے جب کہ انا انسان کو صبر کرنا اور عقل سے کام لینا سکھاتی ہے۔

فوق انا: اس عنصر کو بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں عمل کی اخلاقی شاخ سمجھا جائے۔ یہ عنصر انسان کی جلت اور انا کی تسکین کے طریقوں کو اخلاقی سطح پر پرکھ کر انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ کیا اس کا طریقہ کار اخلاقی ہے۔ یہ فرد کی جلت حركتوں کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کے لیے سماج اور والدین کے رول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر لڑکا آئس کر کریم کھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں سے اس کی اجازت مانگے گا۔ یہاں فوق انا اس کو بتارہی ہے کہ وہ صحیح اور اخلاقی حرکت کر رہا ہے۔ آئس کر کریم حاصل کرنے کا یہ طریقہ اس کے ذہن میں ڈر، تشویش اور جرم کے احساس کو جگہ نہیں دے گا۔

اس طرح فرانڈ کے خیال میں انفرادی عمل شعوری طور پر تینوں قوتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جلت زیادہ کار فرما ہوتی ہے اور کچھ میں انا۔ بہر حال ان تینوں عناصر کی اجتماعی قوت بھی فرد کے رویے میں استحکام پیدا کرتی ہے۔ فرانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرد کی جلت دو بنیادی عناصر پر منحصر ہوتی ہے جن کو زندگی اور موت دو سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ فرانڈ نے موت کو نظر انداز کر کے زیادہ توجہ زندگی سے یا جنس سے متعلق حقائق پر مرکوز کی ہے۔ اس قسم کی جلت کو جنسی طلب یا حیاتی طلب کی اصطلاح دی گئی ہے۔ یہ خوشی حاصل کرنے کے اصول پر مبنی ہے اور فرد کی یہ طلب فوری تسکین کی خواہاں ہوتی ہے۔

انا کی دفاع کے طریقے

فرانڈ کے مطابق انسانی رویہ زیادہ تر یہ دکھاتا ہے کہ وہ خطرے یا تشویش سے

مبرزی منزل

ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو برس سے تین برس کی عمر میں بچہ سماج کی کچھ ذمہ داریوں کے جواب میں کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والدین کی طرف سے سب سے بنیادی مانگ یہ ہوتی ہے کہ اب بچا پنے پیشتاب وغیرہ جسے جسمانی ضرورتوں کو اپنے طور پر قابو کرنا سمجھتے ہیں۔ اکثر بچے اس عمر میں اپنی آنٹوں میں ہونے والی بالچل کو محسوس کر کے مظوظ ہوتے ہیں۔ مبرزی منزل دراصل کچھ ایسے ہی محسوسات کا مرکز ہے۔ انسان کی فطری جلت اور اس کی انا میں اسی مرحلے پر فرق ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی مرحلے پر بچے اور بڑے لوگوں کے مطالبات میں فرق واضح ہوتا ہے اور ان کا اپنے مزان پر قابو ہوتا ہے۔

ذکری منزل

یہ مطالعہ تناسلی اعضاء پر منی ہے۔ چار سے پانچ سال کی عمر کے بچے موئش اور مذکور میں تفریق کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے درمیان جنسی رشتے سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی مرحلے پر ایک بچہ (لڑکا) فہم وادرک کی الجھن کو محسوس کرتا ہے جس میں وہ ماں کے لیے پیار اور باپ کے لیے جارحیت محسوس کرتا ہے لیکن سزا کے ڈر اور باپ کی ڈانت اور غصے کا بھی اسے علم ہوتا ہے۔ (اطور و عمل) (اوڈیپس ایک یونانی راجحتا جس نے انجانے میں اپنے باپ کو مارڈ الاختا اور پھر اپنی ماں سے شادی کر لی تھی) اس منزل کا ایک خاص مرحلہ اسی اوڈیپس الجھن کا حل ہے۔ اور یہ حل تب نکلتا ہے جب بچہ اپنے باپ ماں سے تعلق اور رشتہ پہچان لیتا ہے اور پھر اپنے والد کے برداوا کو نہونے کے طور پر اپنے روئیے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لڑکیوں میں یہ اوڈیپس الجھن الیکٹرا الجھن کہلاتا ہے (الیکٹرا ایک یونانی کردار تھا جس نے اپنے بھائی کو راغب کیا تھا کہ وہ ماں کو مارڈا لے) لیکن لڑکیوں میں یہ مرحلہ کچھ مختلف طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ عشق یا پیار جتنے کے لیے عموماً لڑکیاں علامتی طور سے اپنے باپ سے شادی کر کے خاندان بناتی ہیں۔ جب بچیوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے تو وہ

امتحنات میں خراب کام کرنے کے بعد کچھ قلم خریدے اور اپنے اس عمل کو صحیح محسوس کرانے کے لیے یہ کہے کہ ”میں ان نئے قلموں کے ذریعہ اچھا کام کر سکتا ہوں۔“ لوگ جب اپنی اناکے تحفظ کے لیے ان طریقوں کو آزماتے ہیں تو دراصل وہ اس حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ تمام طریقے انسان کی اناکو درپیش فکر، پریشانی اور تشویش جیسے محسوسات میں گھر کر بھی صحیح روایہ رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ فرانڈ کے اس نظریے پر بہت سے مفکرین نے سوالات اٹھائے ہیں۔ مثلاً فرانڈ کا یہ دعویٰ کہ ”اظہالی طریقے سے انسان کے اوپر پڑنے والا باؤ اور فرم ہو جاتی ہے،“ کو زیادہ تقویت نہیں ملی ہے۔

شخصیت کی نشوونما کے مراحل

فرانڈ کے نظریے کے مطابق شخصیت کا مرکزی پہلو ابتدائی مراحل میں ہی طے ہو جاتا ہے۔ یہ تازندگی قائم رہتا ہے اور اگر اسے تبدیل کرنا چاہیں تو بہت مشکل سے تبدیل ہوتا ہے۔ انھوں نے بھی شخصیت کی نشوونما کی ایک ایکیم وضع کی ہے جو پانچ مراحل پر مختص ہے اس کو ”نفسی جنسیاتی“ کا نام دیا گیا ہے۔ نشوونما کے کسی بھی مرحلے پر کوئی رکاوٹ شخصیت کی نشوونما پر غلط اثر دالتی ہے اور شخصیت پر اس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ ان تمام مراحل کا بیہاں پر مختصر تجویز کیا جا رہا ہے۔

زبانی منزل

ایک نومولود بچے کی بنیادی جلت اس کے منہ تک محدود ہوتی ہے۔ یہ ہی اس کی تسلیم اور مسرت کا مرکز ہوتا ہے۔ وہ اپنے منہ کے ذریعہ ہی غذا حاصل کرتا ہے جس سے اس کی بھوک کی تسلیم ہوتی ہے۔ بچے کو انگوٹھا پونشنے، دودھ پینے اور کامنے سے ذہنی تسلیم حاصل ہوتی ہے۔ عمر کے ان ابتدائی مہینوں میں ہی جب دنیا کے بارے میں انسان کی بنیادی حیات بنتی ہیں۔ اس لیے اگر فرانڈ کا نظریہ مانیں تو ایک ایسا فرد جو دنیا کو ایک تلخ جگہ سمجھتا ہے، اس کی زندگی کا ابتدائی دور پریشانیوں اور مشکلات بھرا رہا ہو گا۔

رویہ اس کے ذہن میں پنپ جائے گا۔ اس طرح کی ناکامی بچ کی زندگی کو بڑی حد تک متاثر کر سکتی ہے۔ ایسے لڑ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ مرد عموماً جارح اور ظالم ہوتے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ لڑ کیاں ان کے اوپر انحصار کریں۔ مراجعت اسی طرح کے حالات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ انسان کو ایک دور پہلے گھیٹ لے جاتی ہے۔ مزاج میں رجعت پسندی تب پیدا ہوتی ہے جب نشوونما کی کسی بھی ایک منزل کے مسائل مناسب طور سے حل نہ ہو سکے ہوں، اس حالت میں افراد غیر پختہ رویہ اپنائیتے ہیں۔

خود کو اپنی ماں کے ساتھ مشابہ کرنے لگتی ہیں اور باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ماں کے جیسے رویے اپناتی ہیں۔ اوڈیپس الیجن کے حل کا تقیدی پہلو یہ ہے کہ بچہ والدین میں سے اپنی ہی جنس کے فرد کے ساتھ شناخت ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوسرا الفاظ میں لڑ کے ماں کے لیے اپنی جنسی خواہشات کو ترک کر کے والد کو ایک نمونے کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جبکہ اس کو اپنا دشمن سمجھنے کے اور لڑ کیاں اپنے والد کے تین جنسی خواہش ترک کر کے اپنے آپ کو ماں کے ساتھ مشابہ کر لیتی ہیں۔

فرائد کے بعد کے نظریات

فرائد کے بعد بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ کچھ نے فرائد کے مطابق کام کیا اور پھر اپنی طرز فکر ایجاد کی اور اس تحقیق کو تحلیل جنس کا نظریہ قرار دیا۔ ان مفکرین کو بھی اسی مناسبت سے Neo-analytic کا نام دیا گیا یا بعد رائد۔ ان تمام تحقیقات کی خصوصیت یہ ہے کہ سب ہی نے جنسی اور جارحانہ جلت اور انسان کی انا کو فرائد کی طرح ایہیت نہیں دی بلکہ ان میں انسان کی تجھیقی قوتیں، مقابلہ کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی اہلیت پر زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کو یہاں پختہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔

کارل جنگ: مقصد اور آرزو

جنگ نے اپنے ابتدائی دور میں فرائد کے ساتھ کام کیا لیکن بعد میں وہ فرائد سے الگ ہو گیا۔ جنگ کے مطابق انسان زیادہ تر اپنی خواہشات اور مقاصد کی رہنمائی میں کام کرتا ہے نہ کہ جنسی اور جارحانہ قوتوں کے زیر سایہ۔ جنگ نے اپنا الگ نظریہ پیش کیا جس کو تحلیل نقش کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ شخصیت اور فرد میں مقابلہ کرنے والی قوتوں اور ڈھنپوں سے مل کر تیار ہوتی ہے (جس کو متوازن ہونا چاہیے) جبکہ اس کے وہ سماج کی ضرورتوں اور فرد کے درمیان یا پھر فرداور حقیقت کے درمیان پروان چڑھتی رہے۔

خوابیدہ جنس کا دور

انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ تقریباً سال کی عمر سے سن بلوغ تک رہتا ہے۔ اس دوران بچہ جسمانی طور پر بڑھتا جاتا ہے لیکن اس کی جنسی خواہشات نسبتاً است ہوتی ہیں۔ اسی دوران بچے کی تمام ترقتوں میں اس کے مقاصد کے حصول میں صرف ہوتی ہیں۔

تھا سلی دور

عمر کے اس دور میں انسان بلوغت تک پہنچتا ہے اور اس کی نفسیاتی جنسی نشوونما ہوتی ہے۔ جنسی حس، خوف اور عمر کے ابتدائی ادوار میں دبائی گئی خواہشات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ افراد جنس مخالف سے زیادہ پختہ اور صحیح انداز میں بات کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر عمر کے اس مرحلے تک کافی سفر زیادہ تر مخالفتوں اور رکاوٹوں سے پُر رہا ہے تو نشوونما کی ایک سیڑھی پہلے ہی پار کر لیتا ہے۔

فرائد کا کہنا ہے کہ بچے جیسے جیسے نشوونما کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں ان کا دنیا کے تین نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک منزل میں بچے کی ناکامی اس کی نشوونما کو منجد کر دیتی ہے۔ اس طرح بچے کی نشوونما کر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جو اپنی عمر کے ذکری دور سے صحیح طرح نہیں گزر رہے یا اس دور میں الجھار ہاہے تو وہ اگلے مرحلے کی اوڈیپل الجھنوں کو نیبیں سمجھ پائے گا اور نتیجًا والدین میں سے اپنی ہی جنس (ماں یا باپ) کے تین درشت اور خونخوار

بات مان کر یا ہر بات نہ مان کر بچوں میں علیحدگی اور عدم معاونت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں جو ان کی صحت مند نشوونما میں رکاوٹ بنتا ہے۔

الفریڈ ایڈلر: طرز زندگی اور سماجی دلچسپیاں

ایڈلر کا نظریہ انفرادی نفسیات کا نظریہ مانا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی مفروضہ ہے کہ انسان کا برستاؤ ہمیشہ کسی مقصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ طلب مقصد فرد کے رویے کو طے کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک میں یہ صلاحیت موجود ہے ہم منتخب کر سکیں یا تحقیق کر سکیں۔ ہمارے ذاتی مقاصد ہمارے محکمات ہوتے ہیں۔ وہ مقصد جو ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ہماری غیر مناسب حیات کو کثروں کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، ہماری شخصیت کی نمو میں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ہر فرد کو تابعی اور جرم کے احساس سے گزرتا ہے۔ یہی احساس کم تری ہے جو بچپن کے ایام میں پیدا ہوتا ہے۔ شخصیت کی صحیح نشوونما کے لیے اس احساس پر غالب آنا بہت ضروری ہے۔

ایک فرام: انسانی سروکار

فرائڈ کی حیاتیاتی تحقیق کے برکش فرام نے اپنی تحقیق سماج سے شروع کی۔ اس کے مطابق افراد بنیادی طور پر سماجی ہستی ہے جس کو اس کے آپسی رشتؤں کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے۔ فرام کی دلیل ہے کہ نفسیاتی خصوصیات جیسے نمو اور اپنی صلاحیتوں کا اعتراف، انسان کے اندر آزادی کی خواہش، سچائی اور انصاف کے لیے اس کی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

fram کا کہنا ہے کہ ہماری کرداری خصوصیات دوسرے افراد کے ساتھ ہمارے تجربات پر مبنی ہوتی ہیں۔ تہذیب یا ثقافت تو ایک مخصوص سماج میں زندگی کے طریقوں سے بنتی ہے لیکن افراد کے کردار میں پیدا ہونے والے ثقافتی خصائص سماج اور تہذیب کو بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ فرام کے نظریے کے مطابق ثابت خصوصیات جیسے ملائمت اور پیار کا شخصیت کی نشوونما میں اہم روں ہے۔

بُجگ کا کہنا ہے کہ ایک اجتماعی غیر شعوری کیفیت ہوتی ہے، اولین یا ابتدائی دور ہوتا ہے۔ فرداں کیفیت کو دیکھ کر اپنا نہیں ہے بلکہ یہ کیفیات اسے وراثت میں ملتی ہیں۔ خدا اور قدرت اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ یہ اساطیری کہانیوں، خوابوں اور انسان کے فن پاروں میں جھلکتا ہے۔ بُجگ کا کہنا ہے کہ انسان بذات خود اتحاد کے لیے کوشش رہتا ہے۔ یہ بھی ایک صورت اولیٰ ہے جس کا اظہار مختلف طرح سے کیا گیا ہے۔ بُجگ نے اپنے مطالعہ کا زیادہ تر حصہ اس طرح کے اظہار کو ڈھونڈنے میں صرف کیا ہے۔ اس کے مطابق اتحاد اور کلی ہیئت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی ذاتی اور اجتماعی الیت (لاشموری سطح پر) کا اندازہ ہونا چاہیے اور انسان کو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر رہنا چاہیے۔

کارن ہارنی: رجائیت یا پرآمیدی

ہارنی بھی فرائڈ کا مشاگرد تھا، اس نے اپنا نظریہ فرائڈ کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر پیش کیا۔ ہارنی نے زندگی کا ایک رجائی نظریہ پیش کیا۔ اس نے انسانی نمو اور فرد کی بازیافت پر زور دیا۔

ہارنی کے نظریے کی سب سے بڑی دین اس کا فرائڈ کے اس نظریے کو پیغام کرنا ہے جس میں فرائڈ نے عورت کو متعدد جدیدیں۔ ہارنی کے مطابق ہر صنف کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اور مختلف صنف کو ان کا اعتراف کرنا چاہیے، کوئی بھی صنف کم تر یا بر تن نہیں ہوتی۔ اس کا کہنا ہے کہ عورت حیاتیاتی عوامل کی نسبت سماجی اور تہذیبی عوامل سے زیادہ متأثر ہوتی ہے۔ ہارنی کی دلیل ہے کہ نفسیاتی بدنی مختل (بے چین) آپسی رشتؤں کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا تجربہ انسان کو بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ جب کسی بچے کے تین والدین کا رویہ لائقی، پست ہمتی والا اور محبوط ہوتا ہے تو پچھے خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے اور نتیجہ کے طور پر ایک حس ابھرتی ہے جس کو بنیادی تشویش کہا جاتا ہے۔ والدین کے تین گھر ارخ اور بنیادی جاہیت اسی حس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ والدین بہت زیادہ لائقی دکھا کر یا بچوں کو مغلوب کر کے یا پھر بچے کی ہر

ایک ایکسن: شخصیت کی تلاش

پرمنی ہوتی ہے جب ایک شخص نئے ماحول میں جا کر نئے طریقے سیکھتا ہے۔ اس طرز فکر کے پیشتر ماہرین کی نظر میں جواب یار عمل انسان کی شخصیت کا ڈھانچہ ہے۔ ہر جواب ایک رو یہ ہے جو ایک مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عمل میں آتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی غذا کے انتخاب میں بہت مشکل پسند ہوتے ہیں۔ مثلاً پچھے بہت سی سبز یوں کو کھانا پسند نہیں کرتے جیسے پالک، لوکی یا کریا یا غیرہ لیکن دھیرے دھیرے وہ ان کو کھانے لگتے ہیں۔ کرداری نظریے کے مطابق بچوں کو ان سبز یوں کو کھانا سکھایا جا سکتا ہے اگر ان کے والدین کو پسند ہیں بلکہ تک ان بچوں کو ان سبز یوں کے ذائقے کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ ان کو پسند کرنے لگیں گے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ رو یوں کو صرف بند کرنے والا بنیادی رجحان حیاتیاً اور سماجی ضروریات میں کمی ہے اور یہ تقویت بخش رو یوں یا جوابات سے حاصل کیا جاتا ہے۔

آپ نے گیارہویں جماعت میں پڑھا ہو گا کہ سیکھنے کے بہت سے اصول ہیں جن میں جوابی، تہویجی اور تقویت بخشنے والے ذرائع شامل ہیں۔ پاؤ لوکی کلاسیکی التزام کا نظریہ اسکر / ویلیتی التزام کا نظریہ اور بندورا کا مشاہداتی مطالعے کا نظریہ آپ لوگوں نے پڑھا۔ یہ تمام نظریات سیکھنے اور رو یوں کی دیکھ بھال کے طریقے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ان تمام طرز فکر کے اصول شخصیت کے بارے میں تحقیقت کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشاہداتی مطالعہ کا نظریہ سماج کے مطالعے پر زور دیتا ہے۔ (یہ دوسروں کی نقل اور مشاہدے پرمنی ہوتا ہے)۔ یہ طرز فکر خود ضابطگی پر زور دیتا ہے جب کہ یہ دوسرے نظریوں میں نہیں ہے۔

سرگرمی 2.3

اپنے اور اپنے دوستوں کے برتاؤ کی ان خصوصیات کا پتالگا و اور درج کرو جو شہر نوجوانوں کی شخصیت سے متاثر ہوں۔

ایکسن کا نظریہ شخصیت کی نشوونما میں حقیقی اور شعوری اناپر زور دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق نشوونما ایک پوری زندگی چلنے والا عمل ہے۔ اور ان کی شاخت اس عمل میں مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے نظریہ افرادی شاخت کا مسئلہ کو خاصی مقبولیت ملی ہے۔ ایکسن کی دلیل ہے کہ نوجوان لوگوں کو اپنا ایک نظریہ اور سمت متعین کر لینی چاہیے جو ان کو ایک با معنی مقصد اور متحد ہونے کا احساس دے سکے۔

نفسی حرکیات کی تحقیق کو تقریباً سب ہی حلقوں سے تقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اہم تقدیمی درج ذیل ہیں۔

1۔ یہ تمام تحقیق کسی خاص کیس سے متعلق ہیں اور ان میں سائنسیک بنا دی کی ہے۔

2۔ انہوں نے چھوٹے اور مخصوص قسم کے افراد کا مطالعہ کر کے عام افراد کے بارے میں رائے قائم کی ہے۔

3۔ تمام تصورات پوری طرح نہیں بتائے گئے اس لیے ان کو کسی بھی قسم کے سائنسیک امتحان میں ڈالنا مشکل ہے۔

4۔ فرائد نے مردوں کو تمام انسانوں کی شخصیاتی نمو کے لیے نمونے کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے عورتوں کے تجربات و نظریات کو نظر انداز کر دیا ہے۔

کردار کا نظریہ

یہ طرز فکر کردار کے اندر وہی محکمات کو اہمیت نہیں دیتی۔ ماہرین اعداد و شمار میں یقین رکھتے ہیں جن کو بہ آسانی سمجھا، پرکھا اور ناجا سکتا ہے۔ یہ مشاہدات میں جوابی سلسлюوں پر مرکوز ہوتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق شخصیت کو اگر فرد اور اس کے ماحول کے تینیں جواب کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہ آسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان کے مطابق شخصیت کی نشوونما جوابی خصوصیات میں تبدیلیوں

تہذیبی طرز فکر

خطرات سے مقابلے کو شاہ رہنا بالکل ابتدائی عمر سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ ایک کاشتکار سماج میں بچوں کو بڑوں کے تین تابع داری، چھوٹوں کے تین شفاقت اور اپنے فرائض کے لیے ذمہ دار رہنا سکھایا جاتا ہے۔ چوں کہ کردار کی یہ خوبیاں اس قسم کے سماج میں لوگوں کو زیادہ فعال بناتی ہیں اس لیے یہ خصوصیات ان لوگوں کی شخصیت میں نمایاں رول ادا کرتی ہیں۔ بہ نسبت آزاد، خود مختار اور حصول مقصد کے لیے کوشش رہنے جیسی خصوصیات کے جو شکار کرنے والے سماج میں زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہیں۔ مختلف معاشری تلاش اور تہذیبی مانگ ان دونوں اقسام کے سماج میں پلنے والے بچوں کی شخصیت میں مختلف طرح کے عوامل پیدا کرتی ہیں۔

انسانی طرز فکر

تمام انسانی نظریہ فکر عموماً فائدہ کے نظریہ کے جواب میں ہیں۔ ابریام ماسلو اور کارل راجرس اسی قسم کی فکر کے حامل ہیں۔ ہم محض طور پر ان نظریات کو سمجھیں گے۔ کارل راجرس کا سب سے اہم نظریہ پوری طرح سے باعمل شخص کا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ شخصیت کے ارتقا کے لیے تسلیم کا ہونا ایک بڑھا وادینے والی طاقت ہے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان اپنی صلاحیتوں، طاقتوں اور استطاعت کا بھرپور اظہار کریں، لوگوں کے اندر یہ پیدائشی روحان ہوتا ہے جو لوگوں کی موروثی فطرت کو حقیقت میں تبدیل کرتا ہے۔

راجرس نے انسان کے برہتا و سے متعلق دو بنیادی مفروضے قائم کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رویہ مقصد کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ افراد ہمیشہ مطابقت رکھنے والا رویہ ہی منتخب کرتے ہیں۔


راجرس نے کبھی اپنے مطلب میں آنے والے مرضیوں کی باتیں سن کر یہ نظریہ تیار کیا تھا۔ اس نے جانا کہ اس کے مولکوں کے تجربات میں خود ان کی اپنی ذات ایک اہم ع ضر تھی۔ اس لیے یہ طرز فکر ذات کے ارد گرد بنائی گئی ہے۔ اس کے مطابق یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ لوگ لگاتار اپنا اصل (اصل ذات) ڈھونڈتے رہتے ہیں۔

یہ طرز فکر شخصیت کو تہذیبی اور ماحولیاتی عوامل کی روشنی میں پر کھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرز فکر کے مطابق ایک گروہ کا معاشریتی دیکھ رکھ کا نظام اس گروہ کے افراد کے تہذیبی اور کرداری شاخت کو بنانے میں مرکزی روں ادا کرتا ہے۔ آب و ہوا، قدرتی محول، غذا، بچوں پتے اور مویشی صرف افراد کے معاشری اعمال ہی پر روشنی نہیں ڈالتے بلکہ ان کے سماجی ڈھانچے، رہنے سبھے کے ڈھنگ، محنت اور کام کی تقسیم اور بچوں کی تربیت کے طریقوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اگر کیجا کر کے دیکھا جائے تو یہ تمام عناصر بچے کا کلی یا اجتماعی علمی ماحول بناتے ہیں۔ لوگوں کی مہارت، اہلیت، کرداری طریقے اور اقدار کی فوقيت بہت مضبوطی سے ان تمام عناصر سے مسلک ہوتی ہے۔ مذہبی طور طریقے، رسم و رواج، فنون لطیفہ، تفریحی ذرائع اور کھیل ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعہ افراد کی شخصیت اخلاقیں پذیر ہوتی ہے۔ افراد میں بہت سی ایسی خصوصیات پروان چڑھتی ہیں جو وہ اپنے گروہ کے ماحولیاتی اور تہذیبی عوامل سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح تہذیبی طرز فکر میں شخصیت کو فرد کے اپنے گروپ کی خواہشات کے تہذیبی عوامل سے حاصل کرتے ہیں۔

ہم اس کو ایک ٹھوس مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ آج بھی جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتا ہے۔ شکار کرنا اور سامان زندگی جمع کرنا ان کی گزر بستر کا ذریعہ ہیں۔ جمار کھنڈ کے برہور قبیلہ کے لوگ ایسی ہی آبادی کی مثال ہیں۔ ان میں سے بیشتر بخاروں جیسی زندگی گزارتے ہیں اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر منتقل ہوتے رہتے ہیں اور لگاتار کھلیوں اور جنگلاتی سامان (جیسے کہ پھل، شہد، جڑیں، مشروم وغیرہ) کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس قبیلے میں بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی جنگلوں میں جانے اور شکار کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسی گروہ میں بچوں کو آزاد انسان (بغیر بڑوں کے بہت سے کام نپنا لینے کی ٹریننگ)، خود مختار (بہت سے فیصلے خود لینے کے آزادی) اور مقصد کے حصول کے لیے (شکار کرنے کے دوران آنے والے

چاہیے اگر تصور نفس کی نشوونما کرنی ہے۔ راجس کا ”موقلوں پر مرکوز علاج“ کا نظریہ اسی قسم کا ماحول تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

راجس نے یہ بھی بتایا کہ ہر شخص اپنا ایک مثالی نصب اعین (مثالی خودی) تلاش کرتا ہے۔ یہ مثالی تصور ہے جو فرد بننا چاہتا ہے۔ جب فرد کی



شکل 3.2: سازگاری اور تصور نفس کے نمونے

آپ گیارہویں جماعت میں حرکات کے مطالعے میں پڑھ چکے ہیں کہ ماسلو نے کس طرح ضروریات کی درجہ بندی کی تھی۔ ماسلو نے نفسیاتی طور پر صحبت مند افراد کا تفصیلی خاکہ پیش کیا ہے اور ان کی خود تحقیق کے طریقوں پر بھی بحث کی ہے۔ ماسلو کے مطابق یہ وہ حالت ہے جب فرد اپنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ ماسلو کے کہنے کے مطابق ایسا فرد قدر و منزلت کے قابل ہے جس کے اندر پیار، محبت، خوشی اور تخلیقی کام کی اہلیت موجود ہو۔ بنی نوع انسان خود تحقیق کرنے اور اپنی زندگی کو من مانی سمت دینے کے لیے آزاد ہے۔ خود تحقیق ان حرکات کے مطالعے سے ممکن ہے جو ہماری زندگی پر محیط ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حیاتیاتی حفاظت (تحفظ) اور احساس تعلق کی ضرورتیں (زندگی کی ضروریات) عام طور سے حیوان اور انسان دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح ان ضروریات کی تکمیل کا انفرادی نظریہ اس کو حیوانیت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسانی زندگی کا اصل سفر خود کی تحقیق اور خود کی شناخت کی ضروریات سے شروع ہوتا ہے۔ انسانی نظریہ فکر زندگی کے ثابت پہلوؤں پر زور دیتا ہے۔ دیکھیے بس 2.3۔

مثالی خودی (ذات) اور حقیقی ذات کے درمیان رابطہ ہوتا ہے تو عموماً انسان خوش رہتا ہے۔ لیکن ان دو حالات میں دوری اکثر بے اطمینانی اور ناراضی پیدا کرتی ہے۔ راجس کے مطابق لوگوں میں خود اپنی ذات کو تلاش کرنے اور محاسبہ کرنے کا عام رجحان ہوتا ہے۔ اس عمل میں فرد کی ذات نمودپاتی ہے بڑھتی اور پھیلتی ہے اور زیادہ سماجی بن جاتی ہے۔

راجس کے مطابق شخصیت کی نشوونما ایک لگاتار عمل ہے۔ اس میں خود اپنا محاسبہ کرنے کا علم اور خود تحقیق کا طریقہ اور اس کی واقفیت، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ راجس نے ”خود“ کے تصور کی نشوونما میں سماجی اثرات کو بھی تعلیم کیا ہے۔ جب سماجی حالات ثابت ہوتے ہیں تو فرد کا تصور نفس (خودی) اور ضمیر بھی بلندی پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب حالات منفی ہوتے ہیں تو تصور نفس اور ضمیر بھی پست ہو جاتا ہے۔ بلند ضمیر لوگ عموماً چیلے مزاج کے ہوتے ہیں اور نئے تجربات کے تین ان کا رو یہ مثبت ہوتا ہے تاکہ وہ نمودپاکیں اور خود اپنی تحقیق کر سکیں۔

یہ حالت وارنگ دیتی ہے کہ ایک بلا شرط ثابت حالت تیار کی جانی

ایک صحت مند شخص کو نہ ہے؟

مسلسل انسانیت کے مفکرین نے مانا ہے کہ صحت مند شخصیت صرف سماج کے ساتھ سازگاری میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ خود کی پہچان کی توب میں پنهان ہے اور فرد کے خود اپنے بارے میں سچے احساسات بھی اس میں موجود ہیں۔ ان مفکرین کے مطابق صحت مند افراد درج ذیل خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔

- 1۔ وہ خود سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اپنے محسوسات اور اپنی حدود کو پہچانتے ہیں، خود کو تسلیم کرنے میں، اپنی زندگی کے لیے خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور کچھ بن جانے کی ہمت رکھتے ہیں۔
- 2۔ وہ ”یہاں اور ابھی“ کے تصور کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں الحجتے نہیں ہیں۔
- 3۔ وہ ماضی کا رونا نہیں روتے اور نہ ہی امیدوں کی دنیا میں مستقبل ڈھونڈتے ہیں۔

حالت میں اس کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ تجزیاتی طریقہ تشخیص، ٹریننگ، امداد ملازمت، صلاح و مشورہ اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی کارآمد ہے۔

ماہرین نفسیات نے شخصیت کا تجزیہ بہت سے طریقوں سے کیا ہے۔ سب سے زیادہ مستعمل طریقہ ہیں پیمائش نفسیات آزمائش، خود روپرداز طریقہ، اطلالی تکنیک اور کرداری تجزیہ۔ یہ تمام طریقے مختلف نظریات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ شخصیت کی مختلف تہوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ نے پچھلے باب میں پیمائش نفسیات کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہاں ہم دوسرے طریقوں پر بحث کریں گے۔

خود اپنی رپورٹ کرنا

آلپورٹ کا مانا تھا کہ کسی فرد کو پر کھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اس سے، اس کے بارے میں سوالات کیے جائیں۔ اسی وجہ سے خود رپورٹ کرنے کا طریقہ وجود میں آیا۔ یہ بہتر طور پر تیار کیا گیا ہاچھے ہے جو اکثر نظریات پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرد مخصوص پیمانے کا استعمال کرتے ہوئے خود اپنے بارے میں زبانی جوابات دیتا ہے۔ اس طریقے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ فرد مختلف نکات پر اپنے محسوسات کے بارے میں صحیح رپورٹ کرے۔ یہ تمام جوابات جوں کے توں تسلیم کر لیے جاتے ہیں۔ ان

شخصیت کا تجزیہ

افراد کو جاننا، سمجھنا اور بیان کرنا ایسا کام ہے جس میں روزمرہ کی زندگی میں ہر فرد الجھا ہوا ہے۔ جب ہم نئے افراد سے ملتے ہیں تو انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ رابطے سے پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ ان کا برتاؤ کیسا ہوگا۔ اپنی ذاتی زندگی میں ہم اپنے ماضی کے تجربات پر احصار کرتے ہیں۔ دوسرے افراد سے ملنے والی اطلاعات، مشاہدات اور بات چیت پر بھی ہمارا انحصار ہوتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کا یہ نظریہ بہت سے عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے جو ہمارے فصلوں کو دھندا کر سکتے ہیں اور مصروفیت کو کم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی کاوشوں کو زیادہ رسی ڈھنگ سے صاف بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شخصیت کا تجزیہ کر سکیں۔ کسی بھی فرد کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کی جانے والی کوشش کو ”شخصیت کے تجزیے“ کی اصطلاح دی جاتی ہے۔

اس تجزیے میں وہ طریقے شمار کیے جاتے ہیں جو افراد کو ان کی خصوصیات کی بنا پر تقسیم کرتے ہیں۔ تجزیے کا مقصد فرد کے برتاؤ کو کم غلطی اور زیادہ سے زیادہ درستگی کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اس میں ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرد عام طور سے کیا کرتا ہے اور ایک مخصوص

سوال شخصی عوامل کا سوال نامہ (16 PF)

یہ سوال نامہ کلیل نے تیار کیا تھا۔ اس مطالعے کی بنیاد پر اس نے شخصیت کو بیان کرنے والے بہت سے نکات کی تشخیص کی جن کے ذریعہ بنیادی ڈھانچے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ اعداد و شمار کی اس تکنیک کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے۔ اس سوال نامے میں فرد دیے گئے جوابات میں سے ایک منتخب کرتا ہے۔ یہ اعلانیہ بیانات پر مشتمل ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سوال نامہ ہائی اسکول کے طلباء اور بالغ افراد، دونوں پر یکساں طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نوکری کے لیے رہنمائی، فنی اور پیشہ و رانہ مہارت کو پرکھنے کے لیے یہ طریقہ نہایت موزوں ہے۔

خود اپنی روپوٹ پیش کرنے کے کچھ مشہور طریقوں (جو اس پر بیان کیے گئے) کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو شخصیت کا تجزیہ کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ (جیسے تحکم پسندی، کنٹرول اور رجابت)۔ آپ جیسے جیسے نفیات کا مزید مطالعہ کریں گے، ان تمام طریقوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔

خود روپرداز کے یہ طریقے بہت سی مشکلوں کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ سماجی خواہشات ان میں سے ایک ہے۔ جواب دینے والے فرد کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوابات سماجی ترجیحات کی بنا پر دیتا ہے۔ ایک دوسرا رجحان یہ ہے کہ فرد سب ہی سوالات کے ساتھ مطابقت دکھاتا ہے خواہ سوال کیسا بھی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جوابات ”ہاں“ میں آتے ہیں۔ یہ اسی رجحان کی نشان دہی ہے۔ اس قسم کے رجحانات شخصیت کے تجزیے کو قابل بھروسہ نہیں رہنے دیتے ہیں۔

اس موقعے پر خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفیاتی سوال نامے اور شخصیت کا اس بنیاد پر تجزیہ دونوں میں بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کسی ماہر کی سر پرستی میں کام نہ کر رہے ہوں تو تک اس طرح کے سوال نامے استعمال کر کے اپنے ان دوستوں کی شخصیت کا

کو شمار کیا جاتا ہے اور اس آزمائش کے لیے جو اصول وضع کیے گئے تھے ان کی بنیاد پر انھیں پرکھا جاتا ہے۔ اس قسم کے کچھ طریقے ذیل میں مختصر آبیان کیے گئے ہیں۔

کا شخصی سوال نامہ Minnesota (MMPI)

یہ سوال نامہ شخصیاتی تجزیے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹھوے اور میکلنے نے اسی سوال نامے کو نفیاتی تشخیص کے لیے تیار کیا تھا لیکن یہ ذہنی مرضیوں کی قسموں کی شناخت کے لیے بھی بہت سودمند ثابت ہوا ہے۔ اس کا سدھرا ہواروپ-2 MMPI ہے جس میں 567 بیانات شامل ہیں۔ اس میں فرد کو ہر بیان کے جواب میں ”حق“ اور ”جھوٹ“ بتا کر اپنے بارے میں بتانا ہے۔ یہ سوال نامہ دس تھقی سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور یہ، ہم عالات، پریشانی، ہستریا، مرض نفسی، مذکروموٹ، صنف نفسی عمل، انتشار نفس، ضبط اور سماجی درون بینی وغیرہ موضوعات کی تشخیص کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں مالک اور جو شی نے انہی رجحانات و نکات کی بنا پر جو دھپور سوال نامہ تیار کیا ہے جس کو JMPI کی اصطلاح دی گئی ہے۔

آئی سینک شخصی سوال نامہ (EPQ)

آئی سینک کے ذریعہ تیار کیا گیا یہ سوال نامہ شخصیت کے دو پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ دو پہلوؤں میں درون بینی، بیرون بینی جذباتی استحکام۔ جذباتی عدم استحکام۔ یہ تمام پہلو شخصی اوصاف کی 32 خصوصیات پر مبنی ہیں۔ بعد میں آئی سینک نے اس میں ایک تیسرا پہلو بھی شامل کر لیا ہے جس کو جونیت کی اصطلاح دی۔ یہ نفیات مرض سے متعلق ہے جس میں فرد دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا اور دوسروں سے مشکل انداز میں بات کرتا ہے اور اس میں سماجی بندھنوں کو تحفظ دینے کا رجحان ہوتا ہے۔ جو فرد اس نکتے پر زیادہ نمبر حاصل کرے گا وہ درشت، انا پرست اور سماج مخالف ہو گا۔ اس سوال نامے کو بھی اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔

اندازہ مت لگائیے جن کو نفیسات کا علم نہیں ہے۔

اطلامی تکنیکیں

شخصیاتی تجزیے کے لیے ابھی تک جو طریقے بتائے گئے وہ براہ راست طریقے ہیں کیوں کہ وہ اس اطلاع پر انحصار کرتے ہیں جو خود اس فرد سے حاصل ہوتی ہے جس کو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوالات اس کی شخصیت کے تجزیے کے لیے ہیں۔ ان حالات میں لوگ عام طور سے شعوری طور سے باخبر ہو جاتے ہیں اور اپنے ذاتی محسوسات کو بتانے میں پچھلاتے ہیں۔ اور ایسا وہ سماجی ترجیحات کی بنابر کرتے ہیں۔

تحلیل نفسی کا نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی رویے کا ایک بڑا حصہ ہمارے لاشعوری حرکات کی بدولت وجود میں آتا ہے۔ شخصیت کے تجزیے کا سیدھا طریقہ ہمارے رویے کا لاشعوری کوئی سمجھ سکتا اس لیے یہ طریقے ہمیں کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں صحیح رائے نہیں دیتے۔ یہ مسائل اطلالی تکنیک کو استعمال کر کے حل کیے جاسکتے ہیں۔ اطلالی طریقے بالواسطہ تکنیک کے تحت آتے ہیں۔

اطلامی تکنیک کے ذریعہ لاشعوری احساسات اور حرکات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ یہ اس مفروضے پر مبنی ہیں کہ غیر متعین حالات فرد کو اس کے احساسات، خواہشات اور ضروریات کے بارے میں بات کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اطلال کے یہ طریقے بھی ماہرین کی سرپرستی میں ہی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ بہت سی اطلالی تکنیک وضع کی گئی ہیں جو شخصیت کے تجزیے کے مختلف حالات کو استعمال کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا مانا ہے کہ رپورٹ کرنے کا طریقہ پہچان خیز ہونا چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ تصاویر کی مدد سے کہانی بنانے کو رپورٹ کرنا چاہیے، کچھ ادھورے جملوں کو پورا کر کر شخصیت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، کچھ مختلف طرح کی ڈرائیکٹ بتوکار اور کچھ بہت سے پہچان خیز نکات میں سے کچھ منتخب کر کے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔

حالانکہ پہچان خیز نکات اور جوابات میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ

- سب ہی درج ذیل عوامل میں ایک دوسرے سے مشترک ہوتے ہیں۔
- (1) پہچان نکات پوری طرح غیر متعین ہوتے ہیں اور ان کی کوئی تعریف نہیں کی جاسکتی۔
 - (2) جن افراد کا تجویہ کیا جا رہا ہوتا ہے انھیں اس کے مقاصد کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو اپنے نمبروں کا یا ان کی تعبیر کا اندازہ ہوتا ہے۔
 - (3) فرد کو صحیح اور غلط جواب کے بارے میں علم ہوتا ہے۔
 - (4) ہر جواب شخصیت کا ایک اہم پہلو تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 - (5) جوابات اور ان کی تعبیر بہت طویل ہوتے ہیں اور اکثر موضوعاتی ہوتے ہیں۔

اطلامی تکنیک پیائش نفسی طریقوں سے بہت مختلف ہے پیائش طریقے کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں ہوتے۔ یہ اکثر خصوصیات سے متعلق ہوتے ہیں جن کو پرکھنے کے لیے مہارات اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ اطلالی تکنیک مختصر طور پر دی گئی ہیں۔

Hermann Rorschach کا سیاہی والا ٹسٹ

یہ ٹسٹ Hermann Rorschach نے تیار کیا تھا۔ اس ٹسٹ میں وہ سیاہی کے دھبے لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پانچ سیاہ و سفید ہیں، دو میں کچھ لال سیاہی اور باقی کے تین ہلکے رنگوں میں ہیں۔ یہ دھبے ایک مخصوص شکل میں ہوتے ہیں۔ اور ہر دھبہ ایک سفید گتے کے "7×10" انج سائز کے ٹکڑے پر بناتا ہے۔ ان دھبوں کو بنانے کے لیے کاغذ پر سیاہی گرا کر اس کا نگذ کو درمیان سے موڑ دیتے ہیں۔ (ایسی مناسبت سے ان کو سیاہی کے دھبے کہا جاتا ہے)۔ اب ان کا رڑوں کو دو طرح سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں لگنے والے کارڈوں کو "کارگزاری" مرحلے کا نام دیا گیا ہے۔ افراد کو یہ کارڈ دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ "انھوں نے ہر کارڈ میں کیا دیکھا" دوسری مرحلے پوچھتا چھکا مرحلہ ہے۔ اس میں جوابات کی ایک تفصیلی رپورٹ بنانی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں بھی افراد سے پوچھا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنا ہر جواب کیوں، کیسے اور کن وجہات کی بنابر دیا۔ افراد کے جوابات کو ایک بامعنی


میں اس لمحہ کیا ہو رہا ہے۔ مستقبل میں کیا ہو گا اور کردار (کہانی کے) کیا سوچ رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس ٹھٹ کے جوابات پر نمبر دینے کے لیے ایک باقاعدہ معیار طے ہے۔ بچوں اور بزرگوں کے لیے اس ٹھٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اما چودھری نے اس کا ہندوستانی خاکہ تیار کیا ہے۔ TAT کا روڈ کی ایک مثالی شکل 2.5 میں دی گئی ہے۔



شکل 2.5: ایک تصویر جو TAT کا روڈ کی ڈرائیگ پیش کر رہی ہے
Rosenzweig کا نامزادی کا تصویری مطالعہ (آزمائش)

یہ آزمائش Rosenzweig نے تیار کی تھی۔ اس کا مقصد افراد کے رویے میں درآنے والی نامزادی کے سبب پیدا ہونے والے جارحانہ رجحان کو پرکھنا تھا۔ اس ٹھٹ میں کارڈوں کی طرح کی تصاویر کی مدد سے حالات کا ایسا سلسلہ پیش کیا جاتا ہے جن میں ایک فرد دوسرے کو پریشان و مضطرب کرتا ہے یا دوسرے فرد کی توجہ اس قسم کے حالات کی طرف مبذول کرتا ہے۔ زیر آزمائش فرد سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تصویری سلسلے میں دوسرافرد کیا جواب دے گا۔ ان جوابات کا تجزیہ جارحانہ رجحان کے درجے اور سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس آزمائش میں زیادہ زور کس بات پر دیا

تاظر میں رکھنے کے لیے صحیح تعدادی ضروری ہے۔ اور اس قسم کے ٹھٹ لینے والوں کو پوری طرح اپنے موضوع پر مہارت ہونی چاہیے۔ اعداد و شمار کے تجزیے کے لیے اب تو کمپیوٹر کی تکنیک بھی وجود میں آگئی ہے Hermann Rorschach کے ٹھٹ کی مثال شکل 2.4 میں دیکھی جاسکتی ہے



شکل 2.4: ”رس چاک کا روشنائی کے دھبے کی ایک مثال
موضوعی تعقل جانچ (TAT)

یہ Morgan اور Murray نے ایجاد کیا۔ یہاں کے دھبے والے ٹھٹ کے مقابل ملے نہیں ایک زیادہ قوتی بیست کا حامل ہے۔ اس ٹھٹ میں 30 سیاہ اور سفید تصویریوں والے کارڈ ہوتے ہیں اور ایک خالی کارڈ ہوتا ہے۔ تصویر والے ہر کارڈ میں ایک یا زیادہ لوگ مختلف حالات میں دکھائے جاتے ہیں۔ ہر کارڈ پر ایک تصویر ہوتی ہے۔ کچھ کارڈ..... بالغ عورتوں اور مردوں کے استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں اور کچھ اڑکے اور لڑکیوں کو اور کچھ کارڈ دونوں ہی طرح کے افراد کو دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے 20 کارڈ مناسب تعداد مانی جاتی ہے حالانکہ کم سے کم تعداد میں (صرف پانچ) بھی کارڈوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ایک وقت میں ایک ہی کارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ زیر امتحان فرد کو کارڈ میں دھائی گئی تصویر کے بارے میں ایک کہانی بتانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی کچھ ان نکات پر مبنی ہونی چاہیے: ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے۔ کارڈ کی تصویر

کہانی کے کردار کی شکل میں دکھا۔ اس آزمائش میں سامنے آنے والی کچھ تو ضمیحات اس طرح ہیں۔

1۔ چہرے کے خدوخال کوڈھنگ سے نہ بانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ تصادم والے رشتے سے بھانگ کی کوشش کر رہا ہے۔

2۔ گردن پر ترسی کی دباؤ یہ بتاتا ہے کہ ایسا شخص اپنے اضطرار پر قابو نہیں رکھ سکتا۔

3۔ سر کو نبنتا بڑا بانا اس امر کا مظہر ہے کہ اس شخص کو دماغ کے امراض کی شکایت ہے اور یہ پیشتر اوقات سر درد میں متلا رہتا ہے۔

شخصیت کے جائزے کے افلالی طریقے کافی دل چسپ ہیں۔ یہ ہمارے غیر شعوری مقاصد، ہمارے ذہن میں گھری جمی ہوئی الگھن، کشاکش اور جذباتی پچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی جوابات کو پرکھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، عمل شماری سے متعلق بہت سی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن بہر حال ماہرین نفسیات نے اس طریقے کو کافی کارآمد پایا ہے۔

کرداری تجزیہ

کسی بھی فرد کا مختلف حالات میں مسائل کا سامنا کرنے کی الہیت اور طریقہ کار اس کی شخصیت کو عیاں کرتا ہے۔ فرد کے بر تاؤ کے مشاہدات اس طرز فکر کی بنیاد ہیں۔ ان مشاہدات میں انٹرو یو، ملاحظات، میزان عوارض، نامزد گیاں اور جا بہ جا ہونے والی آزمائشی تعین شامل ہیں۔ ان سارے نکات کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔

انٹرو یو

با ضابطہ ملاقات شخصیت کو شناخت کرنے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں سوالات پوچھے جاتے ہیں اور جوابات کی روشنی میں اس شخصیت کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ سوالات باقاعدہ سوچے سمجھے ڈھنگ سے بھی

گیا، نامرادی کے احساس سے گھرے شخص کی حفاظت کی طرف یا پھر جو موضوع اسے پریشان کر رہا ہے اس پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یا پھر مسئلے کے حل کی طرف دھیان مرکوز کیا گیا۔ طبیعت کا جارحانہ رجحان ماحول کے تینیں بھی ہو سکتا ہے اور خود اپنے تینیں بھی۔ یا پھر اس قسم کے رجحان کو قطعاً ختم کیا جا سکتا ہے یا تو حالات یکسر تبدیل کر کے یا پھر ان کو پوشیدہ کر کے Pareek آزمائش کو ہندوستانی لوگوں پر آزمایا تھا۔

جملوں کی تکمیل کا لاثٹ

اس آزمائش میں بہت سے ناکمل جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جملے کا ابتدائی حصہ سامنے رکھا جاتا ہے اور آزمائش میں بیٹھنے والے افراد سے اسے مکمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ایسا تسلیم کیا گیا ہے کہ افراد کے ذریعہ مکمل ہونے والے جملوں کی اقسام ان افراد کے رویے، محکات اور تصادم کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس آزمائش میں افراد کو ایسے موقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے پوشیدہ محکات کا اظہار کریں۔ اس طرح کے جملوں کے کچھ نمونے درج ذیل ہیں:

1۔ میرے والد۔-----

2۔ میرا سب سے بڑا خوف یہ۔-----

3۔ میری والدہ کے بارے میں سب سے بہتر بات۔-----

4۔ مجھے فخر ہے۔-----

ایک شخص کی تصویر بنانے کی آزمائش

یہ بہت سہل آزمائش ہے جس میں فرد کو کہا جاتا ہے کہ وہ کاغذ پر ایک انسان کی تصویر بنائے۔ اس کی آسانی کے لیے پنسل اور ربر کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے۔ ڈرائیگ مکمل ہو جانے کے بعد عموماً اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف صفت کے انسان کی ایک ڈرائیگ بھی بنائے۔ آخر میں ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ایک کہانی لکھو جس میں اس کو ناول یا

سکتی ہے۔ اجنبی ہونے کی وجہ سے سوالات کرنے والا اپنے موضوع کو متابر کرتا ہے اور اس طرح صحیح اعداد و شمار حاصل نہیں ہو پاتے ہیں۔ کردار کی شرح بندی: اس قسم کی تکنیک تعلیمی اور صنعت و حرف سے متعلق اداروں میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ کردار کا میزان یا شرح بندی عموماً ایسے لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے جن کو محقق بہت اچھی طرح، بہت عرصے سے جانتا اور پہچانتا ہو اور اس کو ان لوگوں کا مشاہدہ کرنے کا کافی تجربہ رہا ہو۔ اس طریقے میں افراد کو ان کے کردار کے اوصاف کی بنیاد پر مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اقسام بیانیہ اصطلاحات پر منحصر ہوتی ہیں۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ عام بیانیہ اوصاف کے کردار کی شرح بندی میں استعمال بیشتر اوقات الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ اس شرح کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کردار کے وصف کھلے طور پر بیان کیے جائیں۔ شرح بندی کے اس طریقے میں درج ذیل خامیاں بھی ہیں۔

(1) نمبر دینے والے اکثر اپنارو یہ غیر جانبدار نہیں رکھ پاتے جس سے ان کے فیصلے صاف سترے نہیں رہتے۔ مثلاً ہم میں سے ہر کوئی کسی بھی واحد و صاف کی موافقت میں یا مخالفت میں سوچنے لگتا ہے اور یہ یہ سوچ ہی پورے مشاہدے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ رجحان بالائی تاثر کھلااتا ہے۔

(2) نمبر دینے والے افراد میں ایک رجحان یہ بھی ہے کہ وہ زیر آزمائش افراد کو یا تو اپنے معیار کے درمیان رکھتے ہیں (جس کو سطحی میلان کہہ سکتے ہیں) اور اس طرح اس فرد کے کردار کو انتہائی حدود تک فراموش کر دیتے ہیں یا پھر صرف انتہائی حالات کو مد نظر رکھتے ہیں اور سطحی میلان کو چھوڑ دیتے ہیں۔

یہ دونوں ہی خامیاں فنی تجربے اور مہارت سے ختم کی جاسکتی ہیں یا پھر ایسے معیار مرتب کیے جائیں جن میں جوابات کا رجحان قدرے منحصر ہو۔

نامزد گیاں: یہ طریقہ اکثر اوقات اپنے ساتھیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ان لوگوں پر صحیح طور سے استعمال کیا جاسکتا ہے جو

تیار کیے جاسکتے ہیں اور اچانک ذہن میں آنے والے سوالات کو بھی اس مشاہدے کی بنیاد بنا کیا جاسکتا ہے۔

جو سوالات اچانک تیار ہوتے ہیں یا جو غیر ہمیتی ہوتے ہیں ان میں سوال کرنے والا اپنے سامنے والے فرد سے بہت سے سوال پوچھ کر اس کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتا ہے۔ جس انداز سے جواب دیے جاتے ہیں وہ انداز انسان کی شخصیت کے بہت سے پہلو جاگر کر دیتا ہے۔ باقاعدہ سوال نامہ کی بنیادی ہیئت ہوتی ہے اور اس میں بہت مخصوص سوال ہوتے ہیں۔ یہ اکثر افراد کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جوابات کے نمبر دینا (میزان عوارض) بھی اہم روں ادا کرتا ہے۔

ملاحظات و مشاہدات

کردار کا مشاہدہ ایک اور ایسی تکنیک ہے جس سے شخصیت کی پریس کھلتی ہیں۔ ہم لوگ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن فرد کے کردار کا مشاہدہ ایک ایسا کام ہے جو صرف نفسیات کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ صرف مشاہدہ کرنے والا ماہر اور قبل ہونا چاہیے بلکہ ایک تفصیلی ہدایت نامہ بھی ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماہر نفسیات اپنے مطب میں آنے والے مریض کے اپنے افراد خانہ اور ملنے جلنے والوں سے رابطہ کا مشاہدہ کرنا ضروری سمجھے گا۔ سمجھداری سے کیے گئے اس مطالعہ سے وہ اپنے مریض کی شخصیت کے بارے میں کافی کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔

یہ دونوں ہی طریقے حالانکہ کافی مقبول اور مستعمل ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں بہت سی خامیاں بھی موجود ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

1 اس طریقے میں انشرو یو لینے والے یا مشاہدہ کرنے والے کا اپنے علم کا ماہر ہونا از حد ضروری ہے۔ اور یہ ٹریننگ کافی وقت لے سکتی ہے مطلب یہ کہ اتنی مہارت بہت عرصے کے مطالعے کی بعد حاصل ہوتی ہے۔

2 ماہر نفسیات کے رویے کی پختگی اس طریقے کی دوسرا بڑی ضرورت ہے۔
3 مشاہدہ کرنے والے آدمی کی موجودگی اس مشاہدے کے نتائج کو بگاڑ

گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا موقعی دباؤ کی آزمائش ہے۔ اس سے ہمیں بچتہ چلتا ہے کہ ایک فرد کیسے تناویاد باؤ والے حالات میں کام کرتا ہے یا اس کا ر عمل کیا ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے تحت انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں اور جا بہ جا مداخلت کرتے رہیں۔ اس آزمائش میں ایک طرح سے کروار بھائے جاتے ہیں۔ فرد کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ایسا کردار بھائے جس کے لیے اس پر مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے کام کے بارے میں ایک مبانی روپرٹ بھی مانگی جاتی ہے۔ یہ موقف اصلی بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک ویڈیوڈ رامے کے ذریعہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔

عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ اس طریقے کے تحت شخص کو اپنے گروپ کے ایک یا زیادہ افراد کو منتخب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جن کے ساتھ اسے کام کرنا، پڑھنا، کھلنا اور دوسرے کاموں میں شریک ہونا ہوگا۔ اس شخص سے اس انتخاب کی وجہ بھی پوچھی جاتی ہے۔ اس طرح کی نام زدگیاں وصول کرنے کے بعد اس فرد کی شخصیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت زیادہ قبل بھروسہ ہے حالانکہ اس میں بھی جانبداری کا احتمال ہے۔

موقی جانچ

شخصیت کی شناخت کے لیے بہت سے ایسے موقی جانچ کے طریقے ایجاد کیے

کلیدی اصطلاحات

مبرزی حالت، صورت اولی، بنیادی وصف، مرکزی وصف، معمول مرکز علاج، اجتماعی بے شعوری، دفاعی میکانیہ، انا، یہ وون بینی، انسانی نقطہ نظر، فکر، جلت، مثالی نفس، احساس مکتری، درون بینی، عرصہ خوابیدگی جن، مابعد ضروریات، اوڈیپس اجھن، شخصی شناخت، ذکری منزل، اظلالی تکنیک، نفسی حرکیات، اظلال، عقلیت، ر عمل، مراجعت، احتباس، خود پسندی، خود ضابطگی، سماجی شناخت، فوق انا، نظریہ اقسام، بے شعوری۔

نفس اور شخصیت کا مطالعہ ہمیں خود کو اور دوسروں کو سمجھنے میں مدد گار ہوتا ہے۔ ایک فرد کی ذات دوسروں کے ساتھ رابطے سے عیان ہوتی اور نمو پاتی ہے:

- نفس (ذات) کی مختلف قسمیں ہیں جیسے ذاتی نفس، سماجی نفس، اور رشتہ جاتی نفس، خود پسندی اور خود فراموشی فرد کے کردار کے دو اپنے پہلو ہیں۔ جو بماری زندگی میں دور رس اثرات مرتب کرتے ہیں۔

- ضابطہ نفس کی نفسیاتی تکنیک میں فرد کے روپیے کی منظم معلومات اور خود آموزی شامل ہیں۔
- شخصیت انسان کی نفسیات کے ان اوصاف کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تمام حالات میں مستحکم رہتے ہیں اور یہ ہی اوصاف فرد کو مخصوص بناتے ہیں۔ چون کہ شخصیت ہمیں ہماری زندگی میں مختلف حالات کا سامنا کرنے کا اہل بناتی ہے اس لیے یہ باہری یا اندرونی قوتون کے ذریعہ متأثر بھی ہوتی ہے۔

- شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت سے نظریہ فکر ہیں۔ ان میں اہم وضعی، نفسی حرکیات، کرداری، تہذیبی، اور انسان مرکزی ہیں۔

- وضعی نقطہ نظر شخصیت کو مختلف وضعوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو بہت سے

خلاصہ

اوصاف سے مزین ہیں۔ Allport' Eysenck' Cattell نے اوصاف کو بنیاد بنا کر ایک طرز فکر پیش کیا جو انسان کی ایک اجتماعی شکل پیش کرتا ہے۔

فرائڈ نے نفسی محرکات کا نظریہ پیش کیا اور شخصیت کو ہماری اندرونی قوتون جیسے جبلت، انا، اور فوق انا، میں تصادم کے تناظر میں سمجھانے کی کوشش کی۔ فائڈ کے نظریہ کے مطابق بے شعوری الجهن ہمارے نفسی جنسی نشوونما میں پوشیدہ ہیں جو مختلف ادوار میں سامنے آتی ہیں۔

- فائڈ کے بعد کے ماہرین نے فرد کی زندگی کے موجودہ حالات کو مطالعے کی بنیاد بنا کر Jung, Fromm, Adler, Horney اور Erikson نے شخصیت کو انسان کے ماحول کے تین رد عمل کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ فرد کے جوابات کو وہ شخصیت کا ڈھانچہ تصور کرتے ہیں۔

- تہذیبی نقطہ نظر شخصیت کے مطالعے کے لیے ان خوابیں کو بنیاد بنا کر جن سے انسان اپنے معاشی نظام کی وجہ سے بندہ جاتا ہے اور دھیمے دھیمے یہ پورے تہذیبی گروہ کا اٹھاہ بن جاتی ہیں۔ انسان مرکزی طرز فکر خود فرد کو موضوع بنا کر راجرس نے حقیقی نفس اور مثالی نفس کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ماسلو نے شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروریات کے اس تانے بانے کو سمجھا جو انسان کی محرک ہوتی ہیں۔ ضروریات کی درجہ بند بھی کی جاسکتی ہے۔

- شخصیت کے جائزے کا مطلب ہے افراد کی نفسیاتی خصوصیات کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا۔ اس کا مقصد کسی بھی فرد کے رویہ کا بالکل صحیح اندازہ لگانا ہے۔

- کسی فرد کی شخصیت کا اندازہ مشاہدہ کی رپورٹ سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ اظلالی تکنیک، خود اپنی رپورٹ تیار کرنے کے طریقے، مشاہدات جیسے انٹرویو، شرح بندی، اور موقفی جانچ وغیرہ بھی اسی طریقہ میں شامل ہیں۔ راجرس نے سیاہی کے داغوں والی آزمائش اور تعقل کا آزمائش بہت زیادہ مقبول طریقے پیں۔ خود رپورٹ کرنے والے طریقے بھی منظم اور مضبوط ہیں۔

اعادہ کے سوالات

- نفس یاذات کیا ہے؟ ہندوستانی نظریہ مغربی طرز فکر سے کس طرح مختلف ہے؟
- تسلیم مسرت سے کیا مراد ہے اور بلوغ کی نشوونما میں اس کا کیا رول ہے؟
- آپ شخصیت کی تعریف کس طرح کریں گے؟ اقسام کے نقطہ نظر سے بیان کیجیے؟
- فائڈ کا نظریہ شخصیت کیا ہے؟
- ”شخصیت کے اوصاف“ کا نقطہ نظر کیا ہے اور یہ کس طرح وضعی نقطہ نظر سے مختلف ہے؟
- Alfred Adler اور Horney کے بیانات کی روشنی میں ”افسردگی“ کے معنی بیان کیجیے؟

- 7۔ شخصیت کے بارے میں انسانی مرکزی طرز فکر کیا پیش کش ہے۔ ماسلو کے خود تحقیق کے نظریے سے کیا مراد ہے؟
- 8۔ شخصیت کے جائزے کے لیے استعمال ہونے والے مشاہداتی طریقوں پر بحث کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
- 9۔ ہمیشہ شخصی آزمائش سے کیا مراد ہے؟ اس قسم کی دو اہم آزمائشیں کون سی ہیں؟
- 10۔ بیان کیجیے کس طرح اخلاقی تینیک شخصیت کا مطالعہ کرتی ہیں۔ ماہر نفسیات کون سی اہم اخلاقی آزمائشیں استعمال کرتے ہیں؟
- 11۔ ”حامد ایک گلوکار بننا چاہتا ہے جب کہ وہ اکٹروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ اس کے گھروالے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان سب کا لاڈلا ہے لیکن وہ سب اس کی اس خواہش کو درکرتے ہیں۔ راجرس کی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے حامد کے خاندان کے رویتے کا جائزہ لجیئے؟

پروجیکٹ کی تجویز

(1) ہم سب کے ذہن میں اپنے مثالی نفس کا کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے جیسے ’ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟‘ کچھ وقت نکال کر یہ تصور کیجیے کہ آپ نے اپنا مثالی نفس حاصل کر لیا ہے۔ اس خیال کے تحت ان اداروں کے تین اپارو یہ بیان کیجیے: (اسکول، دوست احباب، خاندان، دولت)۔ ان سب پر اپنے رویتے کے بارے میں ایک ایک پیراگراف لکھیے۔ اس کے بعد ان تمام اقسام کو چارالگ کاغذوں پر لکھ کر اپنے دو دوستوں اور دو خاندان کے افراد سے کہیے کہ وہ ان پر ان اقسام کے تحت آپ کا وہ رو یہ درج کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ چاروں لوگ آپ کا حقیقی نفس (ذات) بیان کریں گے جیسے وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اپنے لکھے گئے مثالی بیان کوان کے تحقیق بیان سے ملائیے۔ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں یا نہیں، اس پر ایک رپورٹ تیار کیجیے۔

(2) پانچ لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کو آپ پسند کرتے ہوں خواہ اپنی حالیہ زندگی سے خواہ تاریخ سے۔ ان کی اپنے اپنے میدانِ عمل میں پر معلومات اکٹھا کیجیے اور ان کی شخصیت کی ان خصوصیات کو پہچانیے جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں۔ کیا ان میں آپ کوئی مطابقت پاتے ہیں؟ رپورٹ تیار کیجیے۔



www.ship.edu/~cgboeree/pers_contents.html;
en.wikipedia.org/wiki/projective-test



تعلیماتی اشارات

- 1 طلبہ کو خودی کا تصور سمجھانے کے لیے بہت سے عمل کیے جاسکتے ہیں جیسے کہ کسی بھی ایک طالب علم سے خود اپنے بارے میں کچھ بولنے کو کہا جائے۔
- 2 اس تصور کو فلوجارٹ یا ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھایا جاسکتا ہے۔ طلبہ کی اس سلسلے میں مدد کریں۔
- 3 زندگی کے مختلف مراحل میں شخصیت کے تجزیے کی اقسام یا ممکنیات کی اہمیت پر زور دیجیے۔
- 4 طلباء میں موضوع کے تینیں دل پھیل جگانے کے لیے کچھ آزمائشی نمونے دکھائے جاسکتے ہیں۔ طلبہ سے کہیے کہ وہ ان آزمائشوں کے نتائج کا مقابلہ کریں جو شخصیت کے جائزے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔